

الصَّيُوفُ وَالسِّنَاةُ لِأَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ
وَعَلَى الْوَالِدِ الْحَسَنِ بْنِ حَبِيبٍ

طلباء اور علماء کرام کیلئے خصوصی تحفہ عوام الناس کیلئے بھی نہایت ہی آسان اور عام فہم تحفہ

تحفۃ الرضا
فی
احوال البرزخ والارواح

تألیف

ہومیوڈاکٹر رضا محمد شاہ ہاشمی (فاضل عربی و مدرس نظامی)

مکتبہ جمال کرم دربار مارکیٹ لاہور

Voice: 92-42-7324948 Mobile: 0321- 4300441

Email-jamalekaram@gmail.com



الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ خَيْرًا كَثِيرًا

طلباء اور علماء کرام کیلئے خصوصی تحفہ عوام الناس کیلئے بھی نہایت ہی آسان اور عام فہم تحفہ

تحفۃ الرضا

فی

احوال البرزخ والارواح




تألیف

ہومیوڈاکٹر رضا محمد شاہ ہاشمی (فاضل عربی و درس نظامی)

مکتبہ جمال کرم دربار مارکیٹ لاہور

Voice: 92-42-7324948 Mobile: 0321- 4300441

Email-jamalekaram@gmail.com



تحفۃ الرضاء فی احوال البرزخ والارواح	نام کتاب
رضا محمد شاہ ہاشمی	نام مولف
جناب الحاج عبدالرؤف خان آف عیسی خیل میانوالی	خصوصی تعاون
محمد قاسم شاہ ہاشمی	کمپوزنگ
محمد ہارون، محمد الیاس شاہ (ایم اے اسلامیات)	پروف ریڈنگ
قاری محمد اسحاق شاہ وائٹھی آرائیہ میانوالی	ناشر
حافظ محمد اولیس شاہ، محمد ثقلین شاہ ہاشمی	کاوش
مکتبہ جمال کریم داتا دربار مارکیٹ لاہور	طابع
	ہدیہ

مولف کی دیگر کتب: 1- تحفۃ الرضاء فی میلاد مصطفیٰ 2- تحفۃ الرضاء فی حب المصطفیٰ

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور۔ کراچی	
شیر برادرز اردو بازار لاہور	-
قادری رضوی کتب خانہ گنج بخش روڈ لاہور	
مکتبہ ضیائیہ بوہڑ بازار اوپنڈی	-
احمد بک کارپوریشن راولپنڈی	
ضیاء القرآن پبلی کیشنز کھارادر کراچی	
مکتبہ المدینہ چھوٹی گھٹی حیدرآباد	-
مکتبہ رضویہ دربار مارکیٹ لاہور	

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
50	شان رسالت	8	مقدمہ اول
51	رؤیت باری تعالیٰ	16	عرض مولف
52	دیدار الہی کی خواہش	20	حمد باری تعالیٰ
53	وادی مقدس میں جوتے اتارنے کا حکم	21	نعت رسول ﷺ
56	تجلی ربی کا اثر	22	موت کی یاد
56	شان رسالت	23	آخرت کی یاد
59	بے مثال سماعت	24	قصیدہ بردہ کے اشعار
62	شان رسالت	25	رب العالمین
66	فراستہ المؤمن	26	رب کے معنی۔ ربوبیت کاملہ
70	معجزہ اور کرامت	29	انبیاء علیہم السلام کی دعوت
70	شان رسالت	30	عالمین کی تشریح
73	اولیاء کرام کے واقعات	31	عالم ارواح
75	عالم برزخ کا بیان	32	لیلۃ التعلیس
76	عالم برزخ کی تشریح	35	روح عالم امر سے ہے
77	عالم برزخ اور عالم آخرت کے امور	36	ارواح مخلوق ہیں
78	عالم برزخ کی عالم دنیا سے نسبت	37	روح جسم لطیف ہے
79	عالم برزخ کا آغاز	39	الست برکم کا عہد
79	موت مخلوق ہے	40	عہد کو یاد رکھنے والی ہستیاں
82	موت کا وقت مقرر ہے	41	روح کے لیے موت نہیں
83	اختیاری موت	45	روح سے فیض
84	وفات سے قبل ارشادات	47	روحانی ارتقاء کے منازل
86	وفات کے موقع پر ارشادات		

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
131	مردوں کا سننا احادیث پاک کی روشنی میں	87	شان رسالت
132	ام مہجین سے خطاب	88	حضور ﷺ کو اختیار دیا گیا
134	حضرت فاروق اعظم کا جوان سے خطاب	90	حضرت موسیٰ کی موت کا واقعہ
135	حضرت عائشہ کا عمل	91	حضرت موسیٰ کی دعا
137	میت کا کلام	93	شان رسالت
138	زیارۃ قبور	93	حضرت ادریس کی موت
139	زیارۃ قبور سے فوائد	94	قابل رشک موتیں
139	روضہ اقدس کی زیارت	102	مومن صالح کی موت
140	سترستہ ہزار فرشتوں کی حاضری	103	مومن اور کافر کی موت میں فرق
141	زیارت کے ثمرات	106	ارواح سے ملاقات
143	دربار رسالت	108	مومن کی موت سے زیارت قبور تک
144	ایمان افروز واقعات	110	قبر کا بیان
146	حدیث لا تشد الرحال	112	دفن کرنے میں جلدی کی جائے
147	ماں و باپ کی قبروں کی زیارت	113	روح کا اعادہ
148	شہدائے احد کی زیارت	114	جو تیوں کی آواز سننا
149	سلام کا جواب	115	منکر نکیر
151	مستحب امر	116	حضرت عمر بن العاص کی وصیت
154	اموات کو ایذا	119	شان رسالت
155	انک لا تسمع الموتی کی تفسیر	119	حیران کن سوال
159	عالم دنیا اور عالم برزخ والوں کا	120	بے مثال انعام و اکرام
	باہمی رابطہ	124	کافر کی حالت
160	کشف - روئے صادق	124	قبر کا ثواب و عذاب
161	کشف کن لوگوں کو ہوتا ہے	129	مردوں کا سننا قرآن پاک کی روشنی میں

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
188	تعداد امثال	161	کشف کا انقلابی اثر
189	علامہ ابن حجر لکھتے ہیں	163	رؤیت انبیاء
189	حضرت مجدد الف ثانی لکھتے ہیں	163	زیارت رسول ﷺ کے واقعات
189	علامہ آلوسی تحریر فرماتے ہیں	168	حیات الانبیاء
190	صوفیاء کرام فرماتے ہیں	170	حیات الانبیاء معراج شریف کی روشنی میں
191	ابدال کی شان	171	مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک
192	شیخ احمد رفاعی کی حاضری	172	نوافل سے شرف
195	انبیاء علیہم السلام اور تعداد امثال	172	حضرت موسیٰ کی قبر سے گذر
196	روح محمدی ﷺ نے کون اعلیٰ واسفل کو بھرا ہوا ہے	173	امام الانبیاء ہونے کا شرف
196	ملا علی القاری نقل کرتے ہیں	174	حضور ﷺ کی شریعت کے مطابق نماز
198	علامہ ابن حجر کی لکھتے ہیں	175	انبیاء علیہم السلام کے خطابات
198	علامہ آلوسی نے نقل کیا ہے	176	حضور ﷺ کا خطاب
199	علامہ بیہانی لکھتے ہیں	177	آخری فیصلہ
199	علامہ سیوطی نے لکھا ہے	177	معراج شریف کا جامع واقعہ
201	علامہ مناوی تحریر کرتے ہیں	179	شب معراج کی عظمت
202	حضرت مجدد الف ثانی کی حضرت الیاس سے ملاقات	179	موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات
202	نظروں سے اوجھل	181	قبر شریف سے اذان
203	صحابہ کرام اور کشف	182	نسیم الریاض میں ہے
204	صحابی کے کہتے ہیں	183	امام نووی لکھتے ہیں
204	صحابہ کرام کی شان	184	امام حسن بن عمار لکھتے ہیں
205	حضور ﷺ کی توجہ سے کشف	185	حضرت ابوالابراہیم لکھتے ہیں
		185	صاحب مرقاة لکھتے ہیں
		186	روح المعانی میں ہے

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
249	[جمعہ اور عیدین کے عربی خطبات]	203	صحابہ کرام کے واقعات کشف
		215	کشف اور عالم برزخ
		218	روایئے صادقہ
		219	قرآن پاک کی روشنی میں
		228	روایئے صادقہ احادیث پاک کی روشنی میں
		229	حیات طیبہ کے خواب
		231	حضور ﷺ کا عالم برزخ سے خواب میں آنا
		231	شیطان کی بے بسی
		232	حضرت عثمانؓ کے خواب میں
		232	حضرت بلالؓ کی حاضری
		232	تشہد کی تصدیق
		233	لا الہ الا اللہ کی تصدیق
		233	حضرت ام سلمہؓ کے خواب میں
		234	امام بخاریؒ کے بارے میں خواب
		234	سلطان نور الدین کے خواب میں
		237	علامہ بوصری کا خواب
		238	حضرت ثابتؓ ایک شخص کے خواب میں
		240	مختلف چار خوابوں کا ذکر
244	قاری محمد طیب صاحب کی قلم		
244	حضرت حذیفہؓ شاہ عراق اور مفتی اعظم کے خواب میں		
247	مختلف ایمان افروز واقعات		

نحمدہ و نصلی و نسلم علیٰ رسولہ الکریم
 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ
 الرحمن الرحیم۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ الحمد للہ رب العلمین۔
 تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما او تیتم من

العلم الا قليلا۔ (بنی اسرائیل ۸۵)

(اے میرے محبوب) آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمادیں کہ
 روح امر ربی سے ہے اور تمہیں اس کا علم نہیں دیا مگر تھوڑا۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

و من و راتھم برزخ الیٰ یوم یبعثون

اور ان کے آگے اس دن تک برزخ (پردہ) ہے (جس دن) وہ (قبروں سے) اٹھائے
 جائیں گے۔

مقدمہ اول! از قلم محمد الیاس شاہ ہاشمی مسقط

موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی

یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی

نحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين
الذى خلق الموت والحياة والبرزخ والا رواح والذى
سيبعث كل المخلوقات يوم القيامة واليه ترجعون والصلوة
والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، قائد
غرا المحجلين، شفيع المذنبين الذى حى فى قبره بجسده
الطيب، الطاهر المعطر و يشفع لنا يوم القيامة عند ربه الرحيم۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہیں جو رحم فرمائیوا، مہربان اور
قیامت کے دن کا مالک ہے جس نے موت و حیات، برزخ اور ارواح کو تخلیق کیا جو تمام مخلوقات
کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا اور ہمیں اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

بے پایاں صلوة و سلام ہوں انبیاء و رسولوں کے سردار عالمین کے لیے باعث رحمت،
نمازیوں کے قائد، گناہ گاروں کے شفیع پر جو اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم معطر، مطہر پاک
اور طاہر کے ساتھ حیات ہیں اور رزق دیئے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اپنے رب
رحیم کے سامنے ہماری شفاعت فرمائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں ”انسان“ اسکی کرشماتی اور حیران کن تخلیق ہے۔ بلا شک یہ تخلیق

عجیب و غریب اور حیرت انگیز صلاحیتوں کی مالک ہے اور کیوں نہ ہو کہ انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے زمین میں خلیفہ منتخب فرمایا ہے اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے لیے انسان کو اس کا اہل بھی بنایا اور اسے وہ خصوصیات عطا فرمائیں جو کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئیں۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم

(بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہتر شکل میں بنایا) کا مصداق انسان جب مالک الملک کی اطاعت میں خود سپردگی کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس میں صفات الہیہ کا پرتو جھلکتا ہے۔ انسان کی تخلیق روح، شکم مادر میں منتقلی، عالم دنیا میں آمد، عالم دنیا سے برزخ منتقلی اور پھر بروز قیامت جی اٹھنا۔۔۔ ہر ہر مرحلہ اپنے اندر ایک پورا جہان سموائے ہوئے ہے ہر جہان دوسرے سے مختلف مگر متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔

كيف تكفرون بالله و كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم

يحييكم ثم اليه ترجعون۔ (البقرہ 28.2)

ترجمہ: تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ تم مردہ تھے (عالم ارواح) اسنے تمہیں زندہ کیا (دنیا میں آئے) وہ پھر تمہیں موت دے گا (دنیا سے جانے کے لیے) وہ پھر تمہیں زندہ کریگا (قبر میں) اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے (بروز قیامت)

کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے

قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے

اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ ہر ذی روح انسان جو بھی دنیا میں آیا وہ قبر میں زندگی پائے گا اس میں مسلم، کافر کی تخصیص نہیں کی گئی۔ ہاں زندگی میں فرق ہوگا مراتب میں درجات میں فرق ہوگا محبوب و مقرب جنت کے باغات میں زندہ ہوں گے۔ کافر و منکرو

زندیق جہنم کے گڑھوں میں عذاب میں گرفتار رہ کر زندہ ہوں گے۔ جس طرح کہ حضور ﷺ کا فرمان عالیشان ہے۔

انما القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار۔ (سنن الترمذی 6912)

ترجمہ: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہی ہے۔ قبر کی زندگی کے بارے میں چند ایک اور احادیث مبارکہ میں بڑے واضح انداز میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ۔

مر النبی ﷺ بقبرین فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول و اما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة قشقها نصفين فخرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبا۔ (صحيح البخاری ۳۵۵، کتاب الوضوء)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ دو قبروں پر سے گزرے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیئے جا رہے بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا پھر آپ نے ایک تر شاخ لیکر دو ٹکڑے کر دیئے اور ہر ایک کی قبر پر رکھ دیئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا "جب تک یہ دونوں ٹکڑے خشک نہیں ہوں گے ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ

قال ان الميت يصير الى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوب فيفرج له فرجة قبل النار فينظر اليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر الى ما وراك الله ثم يفرج له قبل الجنة فينظر الى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك (سنن ابن ماجه، كتاب الزهد باب ذكر القبر والبلوى) ترجمہ: حضور ﷺ نے فرمایا بیشک جب مردہ قبر میں پہنچتا ہے تو وہ بندہ صالح اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے وہ گھبرایا ہوا نہ پریشان پھر دوزخ کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے وہ ادھر دیکھتا ہے کہ بعض بعضوں کو چل رہے ہیں (بہت زیادہ آگ ہے) اس سے کہا جاتا ہے کہ ادھر دیکھو جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا ہے پھر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ

قال رسول الله ﷺ اذا قبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لا حدهما المنكر والاخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله اشهد لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقولان له نم

كنومة العروس الذى لا يوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثه
الله من مضجعه ذلك وان كان منافقا قال سمعت الناس
يقولون قلت مثله لا ادرى فيقولان قد كنا نعلم انك تقول
ذلك فيقال لارض التثمي عليه فتلتم عليه فتختلف
اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه

ذلك۔ (سنن ترمذی ۱: ۱۲۷) ابواب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر

ترجمہ: حضور ﷺ نے فرمایا جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے یا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں
داخل کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے سیاہ رنگ ٹیلگوں آنکھوں والے آتے ہیں۔ ان
میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ پس وہ دونوں میت سے کہتے ہیں کہ تو اس
محترم ذات (حضور اقدس ﷺ) کے متعلق کیا نظریہ اور عقیدہ رکھتا تھا وہ شخص وہی بات کہتا
ہے جو دنیا میں کہتا تھا کہ ”وہ اللہ کے عبد خاص اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے
سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد ﷺ اس کے خاص عبد اور رسول ہیں۔“ پس وہ دونوں
فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تو یہ جواب دے گا پھر اس (بندہ مومن) کی قبر
میں ستر ستر ہاتھ تو سب کھینچ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس میں نورانیت پیدا کر دی جاتی ہے اور اسے کہا
جاتا ہے سو جا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاتا ہوں اور انہیں (اپنے انجام کی
) کی خبر دیتا ہوں۔ پس وہ فرشتے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح سو جاؤ جسے اپنے محبوب ترین اہل
کے سوا کوئی نہیں اٹھاتا ہے (پس وہ شخص اس طرح آرام کرے گا) حتیٰ کہ اسے اللہ (قیامت
کے روز) اس کی آرام گاہ سے اٹھائے گا اور اگر منافق ہو تو فرشتوں کو جواب دیتا ہے ”میں
نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی کہہ دیا۔ میں حقیقت حال سے بے خبر ہوں۔“ فرشتے کہتے ہیں ”

ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تو یہ کہے گا "پس زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اس پر سکڑ جا۔ پس زمین اس پر یوں سکڑ جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں اور ایک دوسری میں دھنس جاتی ہیں اور اسے قبر میں ہمیشہ عذاب دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔

حضور ﷺ کا قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا فرمانا صحابہ کرامؓ کو اہل قبور کے عذاب کے بارے میں بتانا صالح اور بدمردہ کا قبر میں بٹھایا جانا اور ان سے سوال جواب ہونا۔۔۔۔۔ سب اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کیفیات "حیات بعد الموت" کا لازمی تقاضا کرتی ہیں لہذا عالم برزخ ایک عالم ہے جس میں حیات جاری و ساری ہے جو دنیوی حیات سے مختلف ہے۔

اسی طرح ایک دوسرے مقام پر قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا گیا۔

کما بدا کم تعودون۔ اعراف 29/7

ترجمہ: جیسے اس (اللہ تعالیٰ) نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی پلٹو گے۔

اس آیت کریمہ نے بالکل واضح انداز میں فلسفہ موت و حیات کو کھول کر بیان فرما دیا ہے غور فرمائیں۔ کما بدا کم جس طرح اس نے تمہارا آغاز کیا۔۔۔۔۔ آغاز کیسے فرمایا؟ اس کے تین مراحل تھے پہلا مرحلہ صرف روح دوسرا ماں کا پیٹ تیسرا دنیاوی جسم میں روح ڈال کر دنیا میں زندہ کیا۔ اس طرح انسان کی پہلے روح تخلیق کی گئی یعنی آغاز میں صرف روح ہی تھی پھر روح کو جسم سے متعلق کرنے کے لیے ماں کے پیٹ میں منتقل کیا گیا جو آغاز کا دوسرا مرحلہ تھا پھر دنیا میں ظاہری زندگی میں جسم و روح کے ساتھ پیدائش آغاز کا تیسرا مرحلہ تھا۔

یہاں آغاز اپنے اختتام کو پہنچنے لگا تو "تعودون" کے مرحلے کا آغاز ہوا اور اس کے تین مراحل ویسے ہی "کما" کے الفاظ کی تشریح ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔

انما خلقتم للابد۔ تنتقلون من دار الی دار

ترجمہ: تم ہمیشہ کے لیے تخلیق کئے گئے ہو۔ ایک جہان سے اگلے جہان کی طرف منتقل ہوتے ہو۔
یہاں ایک اشکال رفع کروں قرآن پاک کی آیت کریمہ

وما جعلنا بشر من قبلك الخلد فان مت فهم

الخلدون۔ الانبياء 34/21

ترجمہ: اور ہم نے آپ سے پہلے کسی آدمی کے لیے (دنیا میں) ہمیشگی نہ بنائی تو کیا آپ
انتقال فرمائیں تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟

اور

انك ميت و انهم ميتون الزمر۔ 30/39

ترجمہ: بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔

یہ ہرگز فلسفہ موت و حیات کے خلاف نہیں ان کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا
میں کسی کو بھی ہمیشہ زندگی عطا نہیں کی۔ جو بھی ذی روح اس دنیا میں موجود ہے وہ ہمیشہ کے

لیے نہیں ہے بلکہ اس دنیا سے لازمی عالم برزخ اور آخرت میں جانا ہے جہاں (ہم فیہا

خالدون) ہمیشہ رہیں گے۔

آئندہ صفحات میں حضور قبلہ والدی سیدی وسندی استاذی و مرشدی حضرت علامہ ڈاکٹر رضا
محمد شاہ ہاشمی مدظلہ العالی نے ”فلسفہ موت و حیات“ اور عالم برزخ و ارواح کے احوال کو اپنے
قلم سے ایسے مدلل جامع مختصر، عالمانہ، فاضلانہ اور عوام و خواص کی تفہیمانہ انداز میں تحریر فرمایا
ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اس سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب حضور نبی اکرم ﷺ کے طفیل ان کی اس مساعی جمیلہ کو اپنی
بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور انہیں صحت کاملہ و عاجلہ سے نوازے تاکہ وہ اس طرح کے
مزید دینی و تحقیقی کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔

حضور والد محترم نے جس ناسازی طبیعت اور سخت تکلیف سے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے اس کا اندازہ خود انہیں ہے اور مشاہدہ ہم گھر والوں کو ہے۔

آمین ثم آمین

محمد الیاس شاہ ہاشمی

ایم اے عربی۔ اردو۔ اسلامیات۔ فاضل عربی

فاضل درس نظامی

سینٹرل کوآرڈینیٹر پاکستان کالج مسقط

مصنعہ برانچ

جولائی۔ 2010

عرض مولف

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد
للہ رب العلمین -

اللہ تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے حبیب ﷺ کے صدقے مجھے یہ
کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اس سے قبل تین کتابیں
1- رمضان شریف کے فضائل اور مسائل 2- تحفۃ الرضاء فی میلاد مصطفیٰ 3- تحفۃ الرضاء فی
حب المصطفیٰ کے نام سے تحریر کر چکا ہوں الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو خاص
و عام میں پذیرائی عطا فرمائی تحفۃ الرضاء فی میلاد مصطفیٰ تین مرتبہ گیارہ گیارہ سو کی تعداد میں
چھپ چکی ہے مجھ جیسے ناچیز گوشہ نشین غیر معروف آدمی کی کتاب کا تین مرتبہ چھپنا یہ سب
کچھ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے ہے۔

قارئین کرام میں اس وقت مریض ہوں آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے
فضل و کرم سے اپنے محبوب ﷺ کے طفیل صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے مجھے، میرے بچوں
کو اور ہم سب کو مزید سے مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے دولت ایمان سے مالا
مال رکھے اور دم آخر میں کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

بیماری کے ایام میں میرے بچوں نے میری بڑی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ
سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپس میں اتفاق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے
گھر ہیں جو گھر سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین تاہم بڑے بھائی
کی بڑائی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ

بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر اس طرح ہے جس طرح باپ کا حق اولاد پر ہے۔ (بہتمی)
 بیماری کے ان ایام میں میرے برادر عزیز حافظ محمد ہاشم شاہ نے فرمایا کہ جس وقت طبیعت کچھ
 بہتر ہو تو کسی موضوع پر نئی کتاب تحریر کرنے کی کوشش کریں میں بھی اس بارے میں کچھ سوچ
 رہا تھا بیماری کے ایام میں میرے لیے یہ کام کرنا انتہائی مشکل تھا تاہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر
 بھروسہ کرتے ہوئے کتاب لکھنا شروع کر دی کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے
 بزرگان دین علماء کرام کو دینی خدمات کرنے پر نہایت ادب و احترام سے خراج عقیدت پیش
 کرنا نہایت ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے عبادات کے ساتھ تحریری طور پر بھی دین کی اتنی
 خدمت کی کہ ہمارے لئے ان کی کتابوں کو پورے طور پر پڑھنا تو درکنار ان کی گنتی کرنا بھی
 ممکن نہیں۔ خدا رحمت کند ایسے عاشقان پاک طینت را

میری یہ کتاب یا اس سے پہلے لکھی گئی کتابیں انہی کی مرہون منت ہیں انہی کی کتابوں سے
 حوالہ جات ہیں اس کتاب میں ان کی کتابوں کے حوالہ جات پڑھ کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا
 ان کی علمی وسعت اور دینی خدمات کا اعتراف کریں گے وہ بزرگ ترین ہستیاں صد بار
 قابل عزت اور احترام ہیں وہ حضرات موحد، عاشق رسول، قاطع شرک و بدعت تھے اللہ
 تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہم کو ان
 کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں میری فکر کہاں تری بات کہاں

ادنیٰ سا ایک بھکاری ہوں یہی نسبت ہے یہی ناطہ ہے۔

بہر صورت میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے کتاب لکھنا شروع کر دی
 عالم برزخ اور عالم ارواح کے موضوع پر کتاب لکھنا مناسب سمجھا تا کہ موت کی یاد تازہ
 رہے اور ہم آخرت کی فکر کریں کیونکہ ہم سب نے ایک دن موت کا پیالہ پینا ہے کل

نفس ذائقة الموت (القرآن) ہر جی کو موت چکھنی ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں اکثر و اذکر کرہازم اللذات الموت۔ لذتوں کو کھودینے والی موت کو بہت یاد کرو۔ (الحديث)

میں نے اپنی محدود علمی وسعت کے مطابق اس موضوع سے متعلقہ حضور ﷺ کی شان اقدس کو شان رسالت کے عنوان سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے کتاب ہذا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ (آمین)

مان ان مدحت محمد ا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي

بمحمد

برادران اسلام میں نے اس موضوع کا اس لیے انتخاب کیا کہ آج ہم موت، عالم برزخ اور عالم آخرت کو بھلا چکے ہیں عالم برزخ کو صرف نام کا جہان سمجھتے ہیں حالانکہ ہم سب نے موت کا پیالہ پینا ہے موت سے عالم برزخ کا آغاز ہو جاتا ہے اور موت کے وقت سے ہی بندہ مومن کے لیے انعامات و اکرامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حدیث پاک کی روشنی میں موت کو بندہ مومن کے لیے تحفہ قرار دیا گیا ہے بندہ مومن کا روح قبض کرنے کیلئے رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں جو آتے ہی بندہ مومن کے روح کو یہ پیغام دیتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔

(اے روح) نکل اس حال میں کہ راضی ہے تو اللہ سے اور اللہ تجھ سے راضی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کی طرف اور ایسے رب کی طرف جو غضبناک نہیں ہے۔ الیٰ آخرہ رواہ احمد و النسائی۔ (کیا ہی خوب پیغام ہے)

پھر ملائکہ اسے جنت سے لائے ہوئے خوشبودار کفن میں داخل کر لیتے ہیں بالا آخر منکر نکیر کے سوالات و جوابات کے لیے اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے منکر و نکیر کے جوابات میں کامیابی پر آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے

جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس کے پاس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے پھر اس کی نگاہ پہنچنے تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ الی آخرہ (آحمد)

مومن صالح کے لیے انعام و اکرام کا سلسلہ موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں۔ موت مومن کا تحفہ ہے جسکی تفصیل اگلے اوراق میں ہے۔ آمین اس تحفہ (موت) کو ہمہ وقت یاد رکھیں اور اپنے خالق و مالک حقیقی سے تعلق حضوری استوار کریں۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے اور اپنے حبیب ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے کتاب ہذا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اپنی مخلوق کے لیے رشد و ہدایت کا سبب بنائے۔ آمین ثم آمین
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت

التواب الرحيم

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دم آخرین کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین

اللهم اجعل آخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله

اندر آن دم کز بدن جانم بری

از جهان بانور ایمانم بری

تیرے دربار میں مولا یہی ہے التجا بے بس

زبان پر ہو بوقت موت بھی کلمہ محمد ﷺ کا

دعاؤں کا طالب

ڈاکٹر رضا محمد شاہ ہاشمی

سکنہ واٹھھی آرائیا نوالی میانوالی

حمد باری تعالیٰ

الہی! حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا
جہاں والوں سے کیونکر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا

زمین و آسماں کے ذرے ذرے میں ترے جلوے
نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشاں تیرا

ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے
سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ ٹھکانہ ہے کہاں تیرا

ترا محبوب پیغمبر تری عظمت سے واقف ہے
کہ سب نبیوں میں تھا ہے وہی ایک رازداں تیرا

جہاں رنگ و بو کی وسعتوں کا راز داں تو ہے
نہ کوئی ہم سفر تیرا نہ کوئی کارواں تیرا

تری ذات معالیٰ آخری تعریف کے لائق
ظہوری سارا عالم روز و شب ہے نغمہ خواں تیرا

(محمد علی ظہوری)

نعت رسول ﷺ

شب انتظار میں سو گیا وہ مرا نصیب جگا گئے
یہ کرم ہے میرے کریم کا کہ وہ میرے خواب میں آگئے

میں ہجوم غم کا نقیب تھا شب تار مرا نصیب تھا
میرے گھر میں چاند اتر گیا وہ جمال اپنا دکھا گئے

جو تاجدار شہاں ہوئے جو امیر بزم جہاں ہوئے
جو شہ زمین و زماں ہوئے جہاں دل گیا وہاں آگئے

وہ مقیم غار حرا ہوئے کہ مکین عرش علیٰ ہوئے
وہ جدھر جدھر سے گزر گئے سبھی راستوں کو سجا گئے

ہمہ وقت پیش خدا کیا 'غم عاصیاں کا سوال تھا
وہ جو لب بے 'وہ جو ہاتھ اٹھے ہمیں ہر بلا سے بچا گئے

جو زبان سے نکلا وہی ہوا 'تھی مرے خدا کی یہی رضا
انہیں رب نے اپنا بنا لیا جنہیں آپ اپنا بنا گئے

بڑے اونچے ان کے نصیب تھے جو ظہوری ان کے قریب تھے

جو مرے حضور کے روبرو انہیں ان کی نعت سنا گئے (محمد علی ظہوری)

موت کی یاد

خطبہ لولاک جن کے حق میں ہے
ان کا ہے فرمان آخر موت ہے
کار دین سے رکھ، نہ رکھ دنیا سے کام
پھر نہ سرگرداں آخر موت ہے
پیشتر مرنے سے کرنا چاہیے
موت کا سامان آخر موت ہے
حکمت و عقل و ہنر مندی میں تو
گر چہ ہے لقمان آخر موت ہے
زور و طاقت میں، کوئی تجھ سا نہیں
رستم دوران آخر موت ہے
حکم خالق کے بجا لا تو تمام
دیکھ لے قرآن آخر موت ہے
رحمت حق گر تجھے درکار ہے
سب پہ کر احسان آخر موت ہے
حق کسی کا مت تلف کر ہے ستم
حق کو تو پہچان آخر موت ہے
با رہا علمی تجھے سمجھا چکے
مان یا نہ مان آخر موت ہے

☆☆☆☆☆

102270

آخرت کی یاد

آج کچھ کر لو عبادت ورنہ کل روز قیام
 سامنے حق کے تمہیں ہو گی خجالت لا کلام
 تندرستی ہے بڑی شے اسکو نعمت جائے
 زندگی بہر عبادت ہے غنیمت جائے
 کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں
 جب بڑھاپا آگیا کچھ بات بن پڑتی نہیں
 جو گیا ملک عدم کو یاں نہیں آئے گا پھر
 پنج روزہ زندگی کوئی نہیں پائیگا پھر
 ہفت کشور کا خزانہ آج ہے یہاں جسکے ہاتھ
 گور میں جائینگے کل وہ پا برہنہ خالی ہاتھ
 جا کے گورستاں میں دیکھو عجب صورت کا حال
 کیسے کیسے ماہ رویاں ہو رہے ہیں پائمال
 خاک میں یکبارگی یوں مل گئے زیر زمین
 نام کو بھی کچھ نشان جن کا کہیں باقی نہیں
 جائے عبرت ہے یہ دنیا کچھ نہیں جائے غرور
 ہے یہ نادانی کہ ایسی زیست پر آئے غرور
 دین و دنیا کا بھلا چاہیے اگر علمی تو اب
 کر خدا کی اور محمد کی اطاعت روز و شب

☆☆☆☆☆

قصیدہ بردہ شریف

ولا تزودت قبل الموت نافلة

ولم اصل سوى فرض و لم اصم

ترجمہ۔ میں نے نقلی اعمال کا تو شہ مرنے سے پہلے کچھ تیار نہ کیا اور فرضوں کے سوا نہ کوئی نقلی نماز ادا نہ کی اور نہ فرض روزوں کو علاوہ کوئی نقلی روزے رکھے۔

ظلمت سنة من احى الظلام الى

ان اشتكت قد ماہ الضر من ورم

میں نے اس نبی ﷺ کی سنت کو ترک کیا جس نے راتوں میں شب بیداری فرمائی یہاں تک قد میں مبارکین پر ورم کی تکلیف ظاہر ہو گئی۔

يا نفس لا تقنطى من زلة عظمت

ان الكبائر فى الغفران كاللحم

اے نفس اپنے گناہوں کے سبب جو نہت بڑے ہو گئے ہیں اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اس لئے بخشش میں بڑے گناہ بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں۔

لعل رحمة ربى حين يقسمها

تاتى على حسب العصيان فى القسم

امید ہے کہ جب میرے اللہ کی رحمت تقسیم ہوگی تو موافق گناہوں کی ہوگی (جس کے گناہ بہت ہونگے اس پر رحمت بہت ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ)

رب العلمين

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ

من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العلمین (الفاتحہ ۱)

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے یعنی جمیع محامد و ثناء ازل سے ابد تک جہاں کہیں اور جب ان کا وجود ہے یا ہو وہ سب ذاتی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ (مواہب الرحمن)

ربوبیت کاملہ :- ہم نے اگرچہ اگلے اوراق میں عالم ارواح اور عالم برزخ کا ذکر خصوصی طور پر کرنا ہے تاہم ان ہر دو کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کا ذکر کرنا بھی (اختصار سے) ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ربوبیت کا تعلق کسی مخصوص جہان سے نہیں بلکہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے فخر العلماء مولانا امیر علی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

”اسم اللہ جامع صفات ہے لہذا کہا گیا کہ اس کلمہ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے جمیع اسماء حسنیٰ و صفات قدسیہ کے ساتھ ثناء ہو جاتی ہے مترجم کہتا ہے کہ پھر جب جملہ صفات آگئیں تو رب العلمین ایک صفت ہے پھر اس صفت کو علیحدہ ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے۔“

ف :- یہ ایک صفت خاص بندوں کی تنبیہ و ترغیب کے واسطے بیان فرمائی اگرچہ اسم اللہ میں صفت بھی شامل تھی شیخ ابن جریر نے کہا کہ الحمد للہ کے معنی یہ ہیں کہ حمد و شکر خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے کہ اس کے سوائے کسی مخلوق کو یا کسی بنائے ہوئے معبود کو بالکل دخل نہیں ہے کیونکہ عالمین کی ربوبیت اسی کے واسطے ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان کی عزیز جان کے مثل بکثرت نعمتیں عطا فرمائیں جنکا احاطہ و شمار ممکن نہیں حتیٰ کہ ان کو اطاعت کے واسطے اعضاء دیے اور ان کی حفاظت کے واسطے دنیا میں رزق و غذا عطا فرمائی حالانکہ ان کو کوئی

استحقاق نہ تھا اور دیگر اسباب طاعت مہیا فرمائے اور باوجود اس کے کامل مزید احسان یہ کیا کہ انبیاء و رسول علیہم السلام ان کی ہدایت کے واسطے بھیجے جنکی پیروی سے دارالسلام جنت میں بی مثال نعمتوں کے ساتھ دائمی مقام ہے پس اللہ تعالیٰ کے واسطے اول و آخر اس کل انعام پر حمد ہے۔

مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اپنے بندوں کے ساتھ ان کے وجود سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ کسی مخلوق کو یہ استحقاق نہیں کہ وہ پیدا کیا جائے اور شک نہیں کہ ہر شخص اپنی جان کو تمام جہان کی کل نعمتوں سے عزیز جانتا ہے پس جان کی نعمت بندہ کے حق میں پہلی نعمت ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی پھر اس کے جسم و جان میں جسکو ایک مجمل نعمت سمجھتا ہے اگر غور سے دیکھو تو بیشمار تفصیلی نعمتیں ہیں حتیٰ کہ اگر منہ و زبان میں تصور ہو تو طرح طرح کی غذاؤں اور ان کے مزہ سے محروم ہو اور اگر اس کی پیدائش میں پاخانہ کا مقام نہ ہو تو سخت درد و تکلیف کے ساتھ تڑپ کر جان عزیز رائگاں کرے اسی طرح اس کے جسم میں لاکھوں رگوں کے ذریعے سے خون کی روانی اور ہر عضو کی غذا حیوانی عجیب حکمت کے ساتھ جاری ہے ورنہ اعضاء بیکار و جسم خشک ہو جائے جیسے بغیر نہروں کی زمین اور بغیر نالیوں کی کھیتیاں چوہٹ ہو جاتی ہیں اسی طرح اس خون میں آبی اختلاط اور بخارات بذریعہ بالوں کے مسام کے خارج کیا جاتا ہے کہ اگر خارج نہ ہو تو بخار وغیرہ امراض سے ہلاک ہو جائے پس ہر بال و مسام اس کے شکر گزاری کی نعمت ہے اور ہر جوڑ بند بلکہ ہر سانس کی آمد و رفت پر شکر واجب ہے لیکن اس کے اداء سے عاجزی ظاہر ہے پس بندہ مومن اپنے پروردگار رب العلمین کی بے انتہاء نعمتیں دیکھتا اور اپنی عاجزی کا اقرار کرتا ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے آخر یہی

کلمہ کہتا ہے۔ ”الحمد لله رب العلمین“

(تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ مواہب الرحمن)

رب کے معنی: رب کے معنی مالک کے بھی ہیں، رب کے معنی پالنے والا، ہر ایک کو اسکی

ضرورت اور اس کے حالات کے مطابق روزی دینے والا، ہر ایک کو لحظہ بہ لحظہ درجہ بدرجہ اس کی شان کے مطابق تربیت کر کے اس کو کمال تک پہنچانے والا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے تو دودھ دیا۔

پھر وہ ایسا رب نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی خوراک دے بلکہ وہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق روزی عطا فرماتا ہے ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو دریا میں موجود مچھلی کا رزق دیکر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتا ہے قادر مطلق نے ایسے پرندوں کی خلقت ایسے طریقے سے کی اسکی چونچ کو اتنا لمبا بنایا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے دریا میں موجود مچھلی کا شکار آسانی سے کر لیتا ہے۔

آنکہ با مرغ ہوا ماہی دہد
بندگان را دولت و شاہی دہد

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شئی خلقه ثم ہدی۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو خلقی ضرورت عطا فرمائی پھر اسکو ہدایت بھی دی۔

فطری ہدایت: اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر ایک مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد فطری طور پر یہ ہدایت بھی عطا فرماتا ہے کہ یہ راستہ تیرے حالات کے مطابق ہے مثلاً ماں کے پیٹ سے بچہ ہونے کے وقت اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے وہ کوئی چیز کھانے اور چبانے کے قابل نہیں ہوتا وہ فطری طور پر اس بات کو سمجھتا ہے کہ میری ماں کے سینے میں میرے لئے خوراک کو رکھا ہے لہذا ماں جب بچے کو سینے سے لگاتی ہے تو بچہ فوراً دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے اگر بچے کو فطری طور پر یہ ہدایت نہ ہوتی تو ہم میں سے کون ہوتا جو اس کو ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنا سکھاتا یا سکھا سکتا تھا۔

احسان عظیم: یہاں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا

احسان بندہ کو وجود میں لانے کا ہے کیونکہ کسی کا بھی یہ حق اور استحقاق نہیں کہ اسکو پیدا کیا جائے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر شخص اپنی جان کو تمام جہان کی نعمتوں سے عزیز سمجھتا ہے۔ پس جان کی نعمت بندوں کے حق میں پہلی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے پس ہر قسم کی تعریف اور عبادت کے لیے لائق وہی ذات پاک ہے جو ہمارا خالق اور دائی مربی ہے۔

عبادت کے لائق: ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ (اسی صفت خاص کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا)۔

يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم
لعلكم تتقون۔ (البقرة)

اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تا کہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔

انبیاء علیہ السلام کی دعوت: اکثر انبیاء علیہ السلام نے اسی صفت خاص (رب العلمین) کے ذکر جمیل سے لوگوں کو توحید باری تعالیٰ پر ایمان لانے اور رب تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔

1۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

و امرت ان اسلم لرب العلمین۔ (المومن)
آپ ﷺ نے فرمایا اور مجھے یہ حکم ہوا کہ میں رب العلمین کا تابع رہوں۔

2۔ فانهم عدولی الارب العلمین۔ (الشعراء)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک وہ سب (بت) میرے دشمن ہیں مگر رب العلمین۔

3- فقولا انا رسول رب العلمين۔ (الشعراء)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس (فرعون) سے کہو ہم دونوں رب العلمین کے رسول ہیں۔

4- انی رسول من رب العلمين۔ (الاعراف)

(حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا) میں رب العلمین کا رسول ہوں۔

عالمین کی تشریح:۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم ہر موجود کو کہتے ہیں جو سوائے اللہ عزوجل کے ہے پس یہاں اس کی جمع بیان کرنا باعتبار اقسام مخلوقات آسمانی وزمینہ و خشکی و تری و جن و انس وغیرہ کا ہے عالم مشتق از علامت ہے جو اپنے پیدا کرنے والے پر دلالت کرے کیونکہ (ہر) عالم جو عجائبات اور حکمت سے مملو ہے۔ اپنے خالق اللہ عزوجل کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔

حضرت ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق عوالم چودہ ہزار اٹھارہ ہزار ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ چالیس ہزار عالم ہیں ان سے ایک عالم دنیا مشرق سے مغرب تک ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عوالم کی تعداد کو سوائے عزوجل کے کوئی نہیں جانتا۔
(تفسیر مواہب الرحمن الفاتحہ)

روح کا بیان
عالم ارواح

نفس اور روح: بزرگان دین نے لکھا ہے نفس اور روح ایک حقیقت کے دو نام ہیں
قرآن پاک میں نفس کا اطلاق روح پر بھی آیا ہے۔
قرآن کریم کی روشنی میں ہے۔

1- اخرجوا انفسکم۔ (۹۳۔ الانعام)

نکالو اپنی جانیں (اپنے جسموں سے)۔

امام عبداللہ بن احمد نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں تحریر کی ہے۔

ہاتوا ارواحکم اخرجوها الینا من اجسادکم۔ (تفسیر مدارک)
اپنی ارواح کو اپنے اجسام سے ہماری طرف نکال دو۔

2- یا یتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة۔ (الفجر)
اے جی چمن پکڑنے والا! اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔

3- اللہ یتوفی الانفس حین موتھا۔ (الزمر ۴۲)

اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب ان کی موت کا وقت ہو۔

حدیث پاک کی روشنی میں۔

لیلۃ التعریس:۔ لیلۃ التعریس کے موقع پر روح اور نفس ایک ہی معنی میں استعمال
ہوئے ہیں تعریس کے معنی آخرت میں آرام کرنے کے لیے اترنا ہیں۔

غزوہ خیبر محرم ۷ھ میں ہوا تقریباً سترہ دن مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کیا آخر اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو بڑی شاندار فتح عطا فرمائی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ غزوہ خیبر سے لوٹے تو
رات بھر چلتے رہے جب آپ ﷺ کو نیند آنے لگی تو رات کے آخری حصہ میں (آرام کرنے

(کے لیے اترے حضور ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ رات کو (پہرہ دیکر) ہماری حفاظت کریں حضرت زید ابن اسلم کی روایت میں ہے کہ انہیں نماز کے لیے جگا دیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس قدر ہو سکا نماز (نوافل) پڑھتے رہے حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے پھر جب صبح صادق ہونا قریب ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی سواری سے ٹیک لگائی (ان کی نیت سونے کی نہ تھی بلکہ صبح صادق کی انتظار کرتے کرتے) ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔

پھر حضور ﷺ بیدار ہوئے؛ ورنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتیٰ کہ (جب) انہیں دھوپ لگی تو سب سے پہلے حضور ﷺ بیدار ہوئے نبی کریم ﷺ گھبرا گئے اور فرمایا۔ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ (تم نے یہ کیا کیا ہمیں نماز کے وقت جگایا کیوں نہیں)۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا۔

اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک۔

میرے نفس پر وہ چیز غالب آگئی جو آپ کی نفس پر ہوئی۔ الی آخرہ (مسلم)

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا۔

فقال یا یہاالناس ان اللہ قبض ارواحنا

اللہ نے ہماری روحوں کو قبض کر لیا۔ (ابن ماجہ)

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو نفس سے تعبیر فرمایا حضور ﷺ نے اس کو روح سے تعبیر فرمایا معلوم ہوا کہ یہاں نفس کا اطلاق روح پر آیا ہے اور آتا ہے علامہ ابن قیم تحریر کرتے ہیں۔

نفس اور روح کے درمیان فرق صفات کے اعتبار سے ہے ذات کے اعتبار سے نہیں۔ (کتاب الروح)

روح کے بارے میں سوال:۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ یسئلونک عن الروح

قل، الروح من امر ربی وما او تیتم من العلم الا قليلا۔ ۱۷/۸۵ (۱) اے میرے محبوب) آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرمادیں کہ روح امر ربی سے ہے اور تمہیں علم نہیں دیا مگر تھوڑا قریش مکہ مشورہ کے لیے جمع ہوئے اور ان میں باہم گفتگو ہوئی کہ محمد ﷺ ہم میں رہے اور کبھی ہم نے ان کو صداقت و امانت میں کمزور نہ پایا اب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو ان کی سیرت اور ان کے چال و چلن پر کوئی عیب لگانا تو ممکن نہیں یہود سے پوچھنا چاہیے کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے۔ اس مطلب کے لیے ایک جماعت یہود کے پاس گئی یہود نے کہا کہ ان سے تین سوال کرو اگر تینوں کا جواب نہ دیں تو وہ نبی نہیں اگر تینوں کا جواب دے دیں تب بھی وہ نبی نہیں اگر وہ دو کا جواب دیدیں اور ایک کا جواب نہ دیں تو وہ سچے رسول ہیں وہ تین سوال یہ ہیں۔

1۔ اصحاب کہف کا واقعہ 2۔ ذوالقرنین کا واقعہ 3۔ روح کا حال

چنانچہ قریش نے حضور ﷺ سے یہ سوال کئے آپ ﷺ نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات تو مفصل بیان کر دیئے اور روح کا معاملہ ابہام میں رکھا جیسا کہ توریت میں مبہم رکھا گیا تھا۔ تو قریش یہ سوال کر کے بڑے نادم ہوئے (کیونکہ یہود کے کہنے کے مطابق آپ ﷺ سچے رسول ثابت ہو گئے اور یقیناً آپ سچے رسول ہیں) اس میں اختلاف ہے کہ سوال حقیقت روح سے تھا اس کی مخلوقیت سے لیکن (قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت پہ قربان) جواب دونوں کا ہو گیا اور آیت کریمہ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ مخلوق کا علم علم الہی کے سامنے کم اور قلیل ہے (خزائن العرفان)۔

قارئین کرام! روح انسانی کتنی بھی ترقی اور کمال کو پہنچ جائے (کیونکہ روح کو ترقی اور کمال کے درجات بتدریج حاصل ہوتے ہیں) پھر بھی اس کی صفات محدود رہتی ہیں اور اس

کی یہ صفات ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں۔
 قریش مکہ جو یہود سے مشورہ کر کے حضور ﷺ سے ال کرنے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے روح
 کے بارے میں ان کے سوال کا جواب تفصیل سے کھول کر نہیں بتایا کیونکہ ان کو اس کے سمجھنے
 کا حوصلہ نہیں تھا ان کی سمجھ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھی قرآن پاک نے ایسے فصیح و بلیغ
 انداز میں اس کا جواب دیا۔ کہ ان کو مزید بولنے کی جرات نہ ہوئی قریش مکہ ان سوالوں کا
 جواب دینے سے اس آپ ﷺ کو لا جواب سمجھ کر آئے تھے جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس
 کا فصیحانہ جواب دیا تو سوائے شرمندگی کے ان لوگوں کو کچھ حاصل نہ ہوا جیسا کہ صاحب
 خزائن العرفان نے تحریر کیا ہے کہ قریش مکہ یہ سوال کر کے نادم ہوئے۔ لیکن یہی جواب
 (قل الروح من امر ربی) جو نہایت ہی مختصر تھا لیکن اس کی تہ میں روح کے متعلق وہ بصیرت
 افروز حقائق مستور ہیں جو عارف کامل کی راہ میں چراغ ہدایت کا کام دیتے ہیں۔

روح عالم امر کی چیز ہے۔ شان رسالت

روح عالم امر کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم و ارادہ سے فائض ہوتی ہے جیسا کہ آیت کریمہ
 قل الروح من امر ربی سے واضح ہے۔ روح کی صفات علم و شعور وغیرہ بتدریج
 کمال کو پہنچتی ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے بعض ارواح ایسے بلند اور اعلیٰ و
 ارفع مقام پر پہنچ جاتی ہیں جہاں دوسرے ارواح کی قطعاً رسائی نہیں ہو سکتی جیسے روح محمدی ﷺ
 پہنچی۔ جیسا کہ آیت کریمہ میں ”امر“ کی اضافت رب کی طرف اور ”رب“ کی یاء متکلم کی
 طرف اضافت سے واضح ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ اس روح سے مراد روح محمدی ﷺ ہے۔
 حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

روح کی ابتداء صاحب عرش سے ہے (قل الروح من امر ربی) اور بدن انسانی
 کی اصل مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان الفت پیدا کر دی ہے تاکہ ان میں او

امر اور محنتیں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ (تفسیر کبیر)

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

عالم امر عبارت ہے موجودات سے جو حس خیال، جہت، مکان اور چیز سے خارج ہو عالم امر

انتقائے کیمت کی وجہ سے مساحت اور تقدیر کے تحت نہیں آسکتا۔ (رسالہ روح)

(عالم امر سے مراد مجردات ہیں)

تفسیر مظہری میں ہے کہ عالم امر کو اس لیے عالم امر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی مادہ سے نہیں بلکہ اپنے امر کن سے پیدا کیا ہے۔

ارواح مخلوق ہیں۔ حدیث پاک میں ہے۔ الارواح جنود مجنودة

والمجنودة لا تكون الا مخلوقہ۔ فرمایا ارواح جمع شدہ لشکر ہیں اور جمع شدہ

لشکر مخلوق ہی ہوتے ہیں۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

قل الروح من امر ربی سالوہ هل ہی حادثۃ فاجاب بانہا

حادثۃ واقعة بتخلیق اللہ و تکوینہ۔ کفار آپ سے سوال کرتے ہیں کہ

روح حادث ہے یا نہ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ روح حادث ہے اللہ کے پیدا کرنے اور تکوین

سے واقع ہوا ہے (تفسیر کبیر صف ۴۳۵، ج ۵) علامہ رازی ایک مقام پر یسئلو نک عن

الروح کے بارے میں فرماتے ہیں اظہر روایات میں ہے کہ ارواح سے وہ روح مراد ہے کہ

جو سب حیات ہے (تفسیر کبیر ج ۵) علامہ موصوف کی تحریر کا لب لباب یہ ہے کہ روح جو ہر

بسیط ہے جو اشارہ کن سے پیدا ہوا ہے اس کی تاثیر حیات نے جو بدن کو فائدہ دیا ہے یہ بھی

اسی امر کن کی جھلک ہیں۔

جس طرح اکثر ماہیات اور حقائق ہم سے اوجھل ہیں اور ان کے اوجھل ہونے سے ان کی حقیقت کی نفی نہیں ہوتی تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے اور یہی مراد ہے۔ (وما او تیتم

من العلم الا قليلا)

جسم لطیف:۔ روح ایک جسم لطیف ہے جیسا کہ شرح الصدور میں ہے الاصح انہ جسم لطیف (شفاء الصدور) ابوالقاسم عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح صورت کے اعتبار سے اس طرح لطیف ہے جس طرح ملئکتہ (شرح الصدور) امام عبدالملک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو اجسام کثیف میں اس طرح حلول کئے ہوئے ہے جس طرح سبز پتوں اور سبز لکڑی میں پانی۔

روح مدبر ہے:۔ روح جسم انسانی کی مدبر ہے جسم روح کی تحریک کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا لہذا جسم انسانی کی کوئی حرکت روح سے مخفی نہیں روح کو اس کا علم اور شعور ہوتا ہے۔

روح کے وجود کی کیفیت:۔ جسم میں روح کے وجود کی کیفیت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہاں البتہ ہمارے اعضاء کی حرکت اور ہمارے دماغ کا شعور جسم میں روح کے موجود ہونے کی دلیل ہے جب انسانی جسم سے رشتہ روح منقطع ہو جاتا ہے۔ اور روح قبض ہو جاتی ہے تو انسانی جسم غیر متحرک ہو کر رہ جاتا ہے۔
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں۔

تن زجان و جان زتن مستور نیست

لیک دید جاں بہ کس دستور نیست

ترجمہ۔ جسم روح سے اور اسی طرح روح سے جسم پوشیدہ تو نہیں لیکن جسم کی نگاہ سے روح کو دیکھنے کا دستور ہی نہیں ہم جانتے ہیں کہ جسم میں کوئی شئی روح سے قریب تر نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے روح کو اس طرح پوشیدہ کر رکھا ہے کہ کسی کو روح کو دیکھنا تو

درکنار اس کی کیفیت کا علم بھی نہیں۔

تخلیق ارواح:۔ حدیث پاک میں ہے (اخرجه ابن منذة من حدیث عمرو بن عبیدة

مرفوعاً) ان الله خلق ارواح العباد قبل العباد بالفی عام فما

تعارف منها ائتلف و ماتنا کر اختلف۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بندوں

کی ارواح کو بندوں کی خلقت سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا جنہوں نے ایک دوسرے کو

پہچان لیا ان کی دنیا میں بھی آپس میں محبت ہو گئی اور جن روحوں کا آپس میں تعارف نہ ہوا وہ

دنیا میں بھی ایک دوسرے سے بیگانہ رہے اس حدیث پاک کی روشنی میں معلوم ہوا کہ روح

مخلوق ہے اسلام روح کو مخلوق بتاتا ہے لہذا تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اور دنیا کے

تقریباً دیگر تمام مذاہب بھی روح کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔

شان رسالت:۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں اول ما خلق الله تعالى الروح الله

تعالیٰ نے سب سے پہلے روح کو پیدا فرمایا۔ (یعنی روح محمدی)

یاد رکھیں نور محمدی ﷺ کا خلقت میں اول ہونا حقیقی ہے اور باقی اشیاء مثلاً قلم، عقل اور روح

وغیرہ جن کی اولیت کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے وہ اضافی ہے۔

ملا معین کا شفقی رحمة الله عليه فرماتے ہیں روح قلم اور عقل کی اولیت اضافی ہے یعنی مخلوقات

ارواح میں اولیت روح محمدی کو مجردات میں عقل اور اجسام میں قلم کو اولیت حاصل ہے۔

(معارض النبوة)

عالم ارواح میں الست بر بکم کا عہد

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

واذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم۔
اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے۔

ذريتهم و اشهد هم على انفسهم الست بر بکم۔
انکی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر۔

قالو ابلى شهدنا سورة اعراف - ۱۷۲

کیا میں تمہارا رب نہیں بولے ہاں ہے ہم اقرار کرتے ہیں۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد آدم اکٹھی کی
۔۔۔۔۔ پھر ان کی صورتیں بنائیں۔۔۔۔۔ جیسے دنیا میں بنانی منظور تھیں۔۔۔۔۔ پھر ان
کو بولنے کی طاقت دی پھر ان سب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں
سو سب نے اقرار کیا۔ کہ تو ہمارا رب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں گواہ کرتا ہوں تم پر
ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اس واسطے کہ کہیں تم
کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ (ترجمان القرآن)

شان رسالت اللہ تعالیٰ نے جب تمام ارواح کو اکٹھا کر کے اپنی ربوبیت کے بارے میں
پوچھا تو سب سے پہلے روح محمدی ﷺ نے یلی ارشاد فرمایا۔ (نور العرفان)

شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اولاد اور ان سے انکی اولاد نکالی سب سے
اقرار کرایا اپنی خدائی کا پھر پشت میں داخل ہوئے اس سے مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب
مطلق ماننے میں ہر ایک آپ کفایت کرتا ہے باپ کی تقلید نہ چاہیے اگر باپ شرک کرے

بیٹے کو چاہیے ایمان لاوے اگر کسی کو شبہ ہو کہ وہ عہد تو یاد نہیں رہا پھر کیا حاصل تو یوں سمجھے کہ اسکا نشان ہر کسی کے دل میں ہے اور ہر زبان پر مشہور ہو رہا ہے کہ سب کا خالق اللہ ہے سارا جہان قائل ہے اور جو کوئی منکر ہے یا شرک کرتا ہے سو اپنی عقل ناقص سے پھر آپ ہی جھوٹا ہے۔ (انتھی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پشت آدم پر اپنا ہاتھ پھیرا ہر جان کو جسکا وہ قیامت کے دن تک پیدا کرنے والا تھا اسے نکال کر یہ عہد و پیمان لیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے کسی کو اسکا شریک نہ کرے پھر ان کے لیے کفیل رزق ہو کر بدستور پشت آدم میں پھیر دیا۔ سو قیامت اتنے تک قائم نہیں ہوگی جب تک میثاق کرنے والے تمام پیدا نہ ہو لیں۔ انتھی

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ (اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو یاد دلانے کے لیے) فرمایا کہ بیشک میں آپ بھی جو نگا تمہاری طرف رسول اپنے کو یاد دلا دینگے تمکو قول و اقرار میرا اور اتار دو نگا تمہاری طرف (بواسطہ انبیاء علیہ السلام) کتابیں۔ انتھی (ترجمان القرآن)

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس قول و اقرار کو یاد دلانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور تقریباً ایک سو چار کتابیں (صحائف وغیرہ) نازل فرمائیں اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ اتمام حجت کے لیے کیا تا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس عہد و پیمان سے غافل رہے کیونکہ ہمیں تو اسکا علم نہیں تھا۔

بزرگ ہستیاں:- الست برکم کے عہد کو یاد رکھنے والی چند بزرگ ہستیوں کے نام۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ:- مولائے علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے وہ عہد جو میرے رب نے لیا تھا یاد ہے۔

حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ:- فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عہد جو

میرے رب نے مجھ سے لیا تھا یاد ہے۔ (ترجمان القرآن)

حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ :- حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ثوبان بن ابراہیم ہے ۲۴۵ھ میں وفات پائی نماز جنازہ پر اس قدر لوگوں کی کثرت تھی کہ وہاں موجود پل ٹوٹ جانے کا خوف ہو گیا تھا اور سبز پرندوں نے آپ کے تابوت پر سایہ کر لیا تھا (مواہب) حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے آپ سے سوال کیا گیا۔ کیا آپ کو یہ عہد الست بر بکم یاد ہے آپ نے فرمایا گویا وہ کانوں میں آج بھی گونج رہا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو کل کی بات ہے۔ (بیان القرآن)

حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ :- اسی طرح حضرت شیخ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے (وہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی وہ عہد الست بر بکم اچھی طرح سے یاد ہے) سبحان اللہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ قواعد کشفیہ فی الصفات الالہیہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب عہد و میثاق باطن حجر اسود میں امانت ہے۔ (ترجمان القرآن)

روح کے لیے موت نہیں :- روح کے لیے موت نہیں کیونکہ روح محل موت نہیں موت اور حیات دونوں جسد عنصری کی صفتیں ہیں روح بدن میں داخل ہونے سے پہلے بھی زندہ تھی اور بدن سے نکلنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔

روح کی بقاء دلائل کی روشنی میں :- قرآن کریم میں ہے۔

اخر جو انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون۔ (الانعام)
ترجمہ نکالو اپنی جانیں آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائیگا۔

امام عبداللہ بن احمد نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں بیان کی ہے۔

ہاتو ارواحکم اخرجوها الینا من اجسادکم۔ (تفسیر مدارک)

یعنی اپنی ارواح کو اپنے اجسام سے ہماری طرف نکال دو۔

معلوم ہوا کہ ارواح کو اجسام سے زندہ نکالا جاتا ہے ان پر موت طاری نہیں ہوتی بندہ مومن

کو موت کے وقت یوں پیار بھرا خطاب ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة۔ (الفجر)

اے جی چین پکڑنے والا اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔

صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں تحریر

کرتے ہیں یہ مومن سے موت کے وقت کہا جائے گا جب دنیا سے اس کے سفر کرنے کا

وقت آئے گا۔

حدیث پاک: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ابو

سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ (موت کی وجہ سے) ان کی

آنکھیں کھلی رہ گئیں تھی حضور ﷺ نے انہیں بند کر دیا پھر فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی

ہے تو نگاہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے لوگ فریاد کرنے لگے اس پر حضور ﷺ نے فرمایا کہ

اپنے آپ پر بجز نیکی کے دعانہ کرو کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ (مسلم شریف)

حضرت عبدالرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ بیشک رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا سوائے اس کے نہیں مومن کی روح پرندہ کے شکل میں ہوتی ہے۔ جنت کا

میوہ کھاتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جس روز اسے اٹھائے گا اس کے بدن میں پھر

لا یبگا۔ (نسائی، بہیقی)

روح بدن سے علیحدہ ہو جاتی ہے مرنے نہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

ملاء الاعلیٰ۔ انسانوں میں سے بزرگ لوگوں کی روحوں کو بھی ان میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے اور وہ بھی ان فرشتوں کے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

یا یتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة

مرضیة، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔

(یعنی اے اطمینان والی روح! تو راضی اور خوش ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت میں آ جا)۔

(اس آیت میں "میرے بندوں میں داخل ہو جا میں جو اشارہ ہے وہ انہی بندوں کی طرف ہے جو حظیرة القدس اور ملاء اعلیٰ میں داخل ہو جاتے ہیں)۔

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر ابن ابی طالب (حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی) کو دیکھا کہ (فرشتہ بن کر) دوسرے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑا پھرتا ہے اس وقت اس کے دو پر تھے۔ (حجة البالغة)

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اہل مذاہب مسلمان وغیرہ مسلمان اس بات کی طرف گئے ہیں کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے۔ (شرح الصدور)

شیخ الاسلام علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بدن کی موت کے بعد روح باقی رہتی ہے اور متصف بعلم ہوتی ہے (شفاء السقام) علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر اتفاق کا ذکر کیا ہے۔ ابن حزم ظاہری نے یوں لکھا ہے۔

کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیا کم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔

تم کس طرح منکر ہو اللہ سے اور تمہیں تم مردے پھر اس نے تم کو جلایا پھر تم کو مارتا ہے پھر تم کو جلا دے گا۔ پس ثابت ہوا کہ حیات مذکورہ صرف بدن کا روح سے ملانا ہے اور وہ روح کا اس میں پھونکا جانا ہے اور موت مذکورہ فقط بدن اور روح میں جدائی کا نام ہے اور روح کی موت یہ نہیں جیسا کہ جاہل اور بے دین لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ بالکل معدوم ہو جاتی ہے بلکہ وہ موجود و قائم ہے جیسا کہ موت سے پہلے اور حیات اولیٰ سے پہلے تھی اور نہ روح کی موت یہ ہے کہ اس کی حس اور اس کا علم جاتا رہتا ہے۔ بلکہ موت کے بعد اس کا ادراک پہلے سے زیادہ صحیح اور اس کا علم پہلے سے زیادہ کامل ہوتا ہے اور اس کی حیات جو حس و حرکت ارادہ ہے وہ بدستور پہلے سے اکمل حالت میں باقی رہتی ہے۔

علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

ترجمہ۔ حق بات یہ ہے کہ روح کی موت بس بدن سے جدا ہونا ہے اس جدائی کا نام موت ہے اگر یہ خیال ہو کہ روح معدوم یا نیست و نابود ہو جاتی ہے تو ایسی موت روح کے لیے نہیں بلکہ روح ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ (روح المعانی)

علامہ ابن قیم کتاب الروح میں تحریر کرتے ہیں

ترجمہ۔ اور درست یوں ہے کہ کہا جائے کہ روحوں کی موت ان کا بدنوں سے جدا ہو جانا اور نکل جانا ہے پس اگر روحوں کی موت سے اتنا ہی مراد ہو تو وہ موت کے چکھنے والی ہیں اور اگر یہ مراد ہو کہ وہ معدوم و نیست اور عدم محض ہو جاتی ہیں تو ایسی موت روحوں کو نہیں بلکہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے آسائش میں یا عذاب میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدن میں پھر ڈالے گا۔ (کتاب الروح ص ۵۲-۵۳)

قرآن پاک کی دیگر آیات اور احادیث رسول ﷺ جو روح کے تصرف و تعظیم پر

دلالت کرتی ہیں وہ سب روح کی بقا پر بھی دلالت کرتی ہیں۔

صحابی رسول ﷺ کا مزار مقدسہ سے فیض:- حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ

تعلیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یزیدی لشکر کے مدینہ طیبہ پر حملے کے ایام میں میرے سوا مسجد نبوی میں کوئی نہیں تھا نماز کا کوئی بھی وقت نہیں آتا تھا مگر حضور ﷺ کی قبر انور سے اذان اور اقامت کی آواز سنتا تھا پھر میں نماز پڑھتا تھا۔ (ابو نعیم)

روح سے فیض:- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں اگر شیخ زندہ ہے تو سامنے بیٹھے اگر فوت شدہ ہو تو قبر کی طرف منہ کر کے کعبہ شریف کی طرف بیٹھ کر کے بیٹھ جائے خالی الذہن ہو کر بیٹھے پھر دیکھے کہ روح کی طرف سے کس طرح فیض آتا ہے۔

آگے چل کر تحریر کرتے ہیں۔ ”جب قبرستان میں داخل ہو تو سورۃ انا فتحنا لک دو رکعتوں میں پڑھ کر کعبہ کی طرف بیٹھ کر کے میت کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے اور گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر قبر کے قریب ہو جائے اور یا روح الروح کہہ کر اسکی ضرب قلب (دل) ہر لگائے حتیٰ کہ سینہ میں انشراح پیدا ہو جائے پھر انتظار کرے کہ روح کی طرف سے سالک کے دل پر کیا کچھ فیض آتا ہے۔“ (القول الجلیل)

حضرت فقیر نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سروری کلاچوی دعوت قبور کا طریقہ لکھتے ہیں کہ رات کو کسی بزرگ، ولی کامل یا شہید یا غوث و قطب کی قبر پر جاوے اور روحانی اہل قبر پر مسنون طریقے سے سلام کہے اس کے بعد اہل قبر کے حق میں فاتحہ درود پڑھے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اول درود شریف پھر فاتحہ شریف یعنی الحمد شریف اور پھر درود شریف ایک ایک بار پڑھے اس کے بعد اخلاص یعنی قل شریف تین بار پڑھ کر اس کا ثواب روحانی کو بخشے۔ اس کے بعد قبر کے ارد گرد اذان یعنی بانگ پڑھے۔ جس طرح نماز کی بانگ پڑھی جاتی ہے اور قبر کے سرہانے قبلہ کی طرف پھرتا ہوا بانگ پڑھے اور پھر سرہانے آ کر بانگ ختم کرے۔ بعدہ روحانی کو

مخاطب کر کے کہے۔ یا عبد اللہ قم باذن اللہ امد دنی فی سبیل اللہ
 یعنی روحانی فوراً حاضر ہو جائے اس کے حاضر ہونے کی علامت یہ ہے کہ قبر میں جنبش پیدا
 ہوگی اور وہ ہلتی ہوئی معلوم ہوگی۔ اور اس سے رعب و جلال ٹپکے گا اور اس کے دیکھنے سے
 دہشت آنے لگے گی۔ صاحب دعوت قرآن پاک (سورۃ یسین، سورۃ ملک یا سورۃ منزل)
 کی تلاوت کرے پھر مراقبہ کر کے روحانی کی طرف متوجہ ہو اور روحانی فوراً حاضر ہو کر بشارت
 دیگا۔ (عرفان ج دوم)

روحانی ارتقاء

کے

منازل

روحانی ارتقاء: - فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی سے بندہ کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور مشیت ایزدی سے ایسا روحانی ارتقاء نصیب ہوتا ہے کہ اس کے اعضاء حدیث پاک کی روشنی میں صفات الہیہ کے مظہر بن جاتے ہیں۔

حدیث پاک: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے ولی کو تکلیف دے میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کرتا۔ (مگر) اس چیز سے جو مجھے بہت محبوب ہے اس سے جو میں نے اس پر فرض کیا میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں پھر میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر یہ بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ میں اسکو دیتا ہوں اگر میرے ساتھ پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ الی آخرہ (بخاری)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے میرا کوئی بندہ میرے نزدیک فرائض کی ادائیگی سے زیادہ محبوب چیز سے میرے قریب نہیں آتا۔ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب آتا رہتا ہے۔ تا آنکہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جس سے میں محبت کروں میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور مؤید بن جاتا ہوں۔ (طبرانی)

ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرا قرب حاصل کرنے والے کسی بات سے بھی اس قدر قرب حاصل نہیں کر سکتے جس قدر وہ فرضوں کے ادا کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ تا آنکہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان اور آنکھیں ہو جاتا ہوں لہذا وہ (فبی یبصر و بی یسمع) میرے ہی ذریعے وہ دیکھتا

ہے اور سنتا ہے۔

قارئین کرام! ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اس کی سمع ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور بصر ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے الی آخرہ بندہ مومن کو یہ مرتبہ محبوب ہونے کے بعد ملتا ہے برے کاموں سے بچنا اور تقویٰ پر ہیزگاری کا اختیار کرنا تو محبوبیت سے پہلے ہونا لازمی ہے اور دائمی بھی ہے یاد رکھیں جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔

ان الله لا يحب الفسقين۔

ترجمہ۔ اللہ فاسقوں کو اپنا محبوب نہیں بناتے۔

اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا یہ مرتبہ ادا کی فریض اور قرب نوافل اور محبوبیت کا ثمرہ ہے۔

علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت یوں فرماتے ہیں۔

و كذلك العبد اذا واطب على الطاعات بلغ المقام الذي

يقول الله تعالى 'كنت له سمعا و بصرا فاذا صار نور جلال

الله سمعا له سمع القريب والبعيد و اذا صار ذلك النور

بصر له راى القريب والبعيد و اذا صار ذلك النور يد له قدر

على الصريف فى الصعب والسهل والقريب والبعيد۔ (تفسیر

کبیر جلد ۵ صفحہ ۶۸۸ مصری)

ترجمہ: اور اسی طرح جب کوئی بندہ نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو وہ اس مقام پر پہنچ جا

تا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 'كنت له سمعا و بصر' فرمایا ہے جب اللہ کے

جلال کا نور اسکی سمع ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی آوازوں کو سننے لگ جاتا ہے اور جب یہی نور اسکی بصر ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور جب یہی نور جلال اسکا ہاتھ ہو جاتا ہے تو وہ مشکل و آسانی میں دور اور قریب تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

قارئین کرام:۔ یہ شان تو آقا علیہ السلام کے غلاموں یعنی اولیاء اللہ کی ہے خود آقا علیہ

السلام صاحب لولاک کی شان و عظمت کیا ہوگی جبکہ آپ تو مظہر ذات و صفات اور حبیب اللہ ہیں۔

لا یمكن الشاء كما كان حقه

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

چاہیں تو اشاروں سے اپنے کا یا ہی پلٹ دیں دنیا کی

یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا

شان رسالت ﷺ

اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق میں آپ ﷺ ہر پہلو میں بے مثل اور بے مثال ہیں جیسا کہ آپ ﷺ کے ارشاد گرامی اکیم مثلی سے واضح ہے روحانیت میں بھی آپ ﷺ کا کوئی مثل نہیں آپ ﷺ

فرماتے ہیں۔ لی وقت لایسعی غیر ربی عزوجل۔ (کشف الخفاء)

مجھ پر ایک خاص وقت ایسا آتا ہے۔ جسمیں میرے رب کے سوا کوئی دوسرا اسمیں سا نہیں سکتا پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ ﷺ کو معراج شریف کی رات میں اپنی رویت سے بھی سرفراز فرمایا جو آپ ﷺ کا انفرادی مقام ہے۔

محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو

سب اہل سخن میں نے حیرت میں کھڑے دیکھے

روایت باری تعالیٰ:۔ حضرت عبدالرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور ﷺ نے فرمایا میں نے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ (مشکوٰۃ)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بلاشبہ حضور ﷺ نے اپنے رب کو دو بار دیکھا ایک باسر کی آنکھ سے اور ایک بار دل کی آنکھ سے۔ (طبرانی، خصائص الکبریٰ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ نبی کریم ﷺ نے اپنے رب کو دیکھا۔ (زرقانی)

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو دیکھا۔ (شفاء شریف) امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کرام کے نزدیک ترجیح اسی بات کو ہے کہ نبی کریم ﷺ نے معراج شریف کی رات میں اپنے رب کریم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ (زرقانی)

نوٹ:- طوالت سے بچتے ہوئے انہی حوالہ جات پر اکتفا کرتا ہوں اور آخر میں یہ ضروری گزارش بھی کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار میں ادراک یعنی احاطہ کی نفی ہے روایت کی نفی نہیں۔

امتیازی شان:- قارئین کرام عالم دنیا میں روایت باری تعالیٰ کے حصول کا اعزاز صرف اور صرف آپ ﷺ کو نصیب ہوا اس میں آپ ﷺ کا کوئی دوسرا شریک نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلقت سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے اور سید عالم ﷺ کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ (خزائن العرفان)

دیدار الہی کی خواہش

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر ابتدائی حاضری کا ذکر جمیل :- حضرت

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی میعاد یعنی آٹھ سال کی بجائے دس سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی اس دوران حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے آپ کی شادی بھی ہو چکی تھی دس سال مکمل ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت مانگی آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ اور بیوی کو ساتھ لے جانے کی اجازت بھی دی بکریوں کا ایک گلہ اور کچھ زاد سفر بھی ساتھ دیا چنانچہ آپ مدین سے مصر جانے کے لیے روانہ ہوئے سڑک کا راستہ چھوڑ کر جنگل سے جانے کا راستہ اختیار کیا اللہ تعالیٰ کا کرنا یوں ہوا کہ راستہ بھول گئے پانچ دین متواتر چلنے کے بعد وادی سینا میں پہنچے سردی کے ایام تھے آگ موجود نہ تھی چقماق مارنے سے بھی آگ نہ نکلی آدمی رات کے قریب آپ نے طور سینا پر آگ کا شعلہ بلند ہوتے دیکھا وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور جلال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں سے یہ کہا کہ تم یہیں ٹھہرو شاید میں آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں یا وہاں مجھے کوئی آدمی مل جائے جس سے راستہ معلوم کر سکوں۔

اس پاک میدان میں پہنچ کر آپ نے عجیب نظارہ دیکھا کہ ایک سرسبز شاداب درخت جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا آگ جس قدر زور سے بھڑکتی درخت اسی قدر زیادہ سرسبز ہو کر لہلہاتا۔ آگ میں نہ تو دھواں تھا اور نہ اس کی حدت سے درخت پر کوئی اثر ہو رہا تھا۔

آپ درخت سے نزدیک ہوتے درخت اتنا دور ہو جاتا جب آپ ٹھہر جاتے درخت قریب ہو جاتا آخر من جانب اللہ آواز آئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

نودی موسیٰ انی انار بک فاخلع نعلک انک

بالواد المقدس طوى و انا اخترتك فاستمع لما يوحى -)

سورة طه آیت نمبر ۱۱-۱۲-۱۳)

ترجمہ: ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ میں بے شک تیرا رب ہوں سو اتار ڈال اپنی جوتیاں بے شک تو پاک میدان طوی میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا اب کان لگا کر سن تو تجھے وحی ہوتی ہے۔

خزائن العرفان میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قدرت نہیں اور اس کلام کا اللہ تعالیٰ ہی متکلم ہے یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف گوش مبارک سے ہی نہیں بلکہ جسم اقدس کے ہر جزو سے سنا اور قوت سامعہ ایسی عام ہوئی کہ تمام جسم اقدس کان بن گیا۔ (خزائن العرفان)

حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یا موسیٰ علیہ السلام سنا تو کئی بار لبیک کہا اور عرض کیا کہ میں تیری آواز سنتا ہوں اور آہٹ پاتا ہوں مگر یہ نہیں دیکھتا کہ تو کہاں ہے آواز آئی میں تیرے اوپر ہوں تیرے ساتھ ہوں تیرے سامنے ہوں تیرے پیچھے ہوں اور تیری جان سے زیادہ تجھ سے نزدیک ہوں کہتے ہیں کہ موسیٰ ہر جہت سے اور اپنے ایک ایک بال سے اللہ کا کلام سنتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

وادى مقدس میں جوتے اتارنے کا حکم: - قارئین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام

کو وادی مقدس میں جوتے اتارنے کا حکم ہوا ارشاد باری تعالیٰ ہے فاخلع نعليك

انك بالواد المقدس طوى فرمایا اپنے جوتوں کو اتار ڈالو کیونکہ آپ وادی

مقدس طوی میں ہیں خزائن العرفان میں ہے کہ اسمیں تواضع بقعہ معظمہ کا احترام اور وادی

مقدس کی خاک سے حصول برکت کا موقع ہے۔ مسائل السلوک کے عنوان سے بیان

القرآن میں ہے کہ اس سے مقامات مقدسہ کا ادب ثابت ہوتا ہے۔

کتاب لانے کا وعدہ: - حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ تھا کہ

جب اللہ تعالیٰ فرعون کو ہلاک کر دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے ایک کتاب لا کر ان کو دینگے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔

جب فرعون ہلاک ہو گیا تو بنی اسرائیل نے بھی کہا کہ ہم اب مطمئن ہو گئے ہیں ہم کو کوئی شریعت کی کتاب لا دیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کتاب نازل فرمانے کی درخواست کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتاب دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے تیس شب کا وعدہ کیا کہ تیس روزے رکھیں اور کوہ طور پر معکف رہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

و وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلة و اتمنناھا بعشر فتم میقات ربہ
اربعین لیلة۔ (الاعراف)

ترجمہ: اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس رات کا پس پورا کیا انکو اور دس (راتوں سے پس پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی چالیس راتیں

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ماہ ذوالقعدہ کے پورے تیس روزے رکھے کوہ طور پر معکف رہے تیس روزے مکمل کرنے کے بعد آپ نے مسواک کر لی ملائکتہ نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں آپ کے وہن مبارک سے روزے رکھنے کی وجہ سے بڑی محبوب خوشبو آتی تھی آپ نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا۔

دس روز مزید روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کے لیے حکم دیا گیا تاکہ وہ راتھ یعنی خوشبو پھر دوبارہ پیدا ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نے ماہ ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ پھر روزے رکھے اس طرح سے یہ چالیس روزے پورے ہو گئے چالیس دن مکمل ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخصوص رنگ میں شرف مکالمہ بخشا۔ جسکے مخصوص انداز کو مفسرین حضرات نے یوں بیان فرمایا ہے۔

بارگاہ الہی سے ہمکلامی:۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ابرنازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے بقدر چار فرسنگ ڈھک لیا شیاطین کو زمین کے جانوروں کو حتیٰ کہ ساتھ رہتے فرشتوں کو بھی وہاں سے علیحدہ کر دیا گیا اور آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ سے کلام فرمایا آپ نے دربار الہی میں اپنے معروضات پیش کئے اور اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کچھ بھی نہ سنا۔ (سبحان اللہ)

دیدار کی آرزو:۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت اور سرور نے اس کے

دیدار کا آرزو مند بنا دیا۔ رب تعالیٰ کے دیدار کی تمنا پیدا ہوئی فوراً عرض گزار ہوئے رب ارنی انظر الیک (اے میرے رب اپنا دیدار ہی مجھے دکھا دیجئے کہ میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں) اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لن ترانی ولكن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی فرمایا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے (کیونکہ عالم دنیا میں یہ آنکھیں میرے جمال کی تاب نہیں رکھتیں) لیکن پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو۔

ہم اپنے جمال کی ایک ذرا سی جھلک اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں اگر پہاڑ جیسی سخت اور مضبوط چیز اس کو برداشت کر سکی تو ممکن ہے تم بھی دیکھ سکو گے حق تعالیٰ کی تجلیات بہت طرح کی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارادی فعل ہے پہاڑ پر تجلی ہوئی تجلی ربی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ اور پاش پاش کر دیا پہاڑ کے پر نچے اڑ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

فلما افاق قال سبحنك تبت اليك وانا اول المؤمنين۔ (الاعراف)
ترجمہ: پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے میں آپ
کی جناب میں معذرت کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اس پر یقین کرتا ہوں۔

یعنی:۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ آپ کی ذات ان آنکھوں سے دیکھنے
سے منزہ اور رفیع ہے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور آپ کے ارشاد گرامی لن ترانی پر
سب سے پہلے میں یقین کرتا ہوں۔

کس کو دیکھا یہ موسیٰؑ سے پوچھے کوئی
آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام

تجلی کا اثر:۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے
ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تجلی نور سے سرفراز فرمایا تو
(آپ کی قوت باصرہ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی) کہ آپ اندھیری رات میں تیس میل کے فاصلے
سے چیونٹی دیکھ لیتے تھے۔۔ (شرح شفاء ملا علی قاری)

شان رسالت:۔ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں فنا کے اس اعلیٰ
مقام پر پہنچے کہ اپنا کچھ باقی نہ رہا تجلی ربانی کا یہ استیلائے نام ہوا کہ جو کچھ فرماتے وہ وحی
الہی (و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى) ہوتی
۔ (خزائن العرفان)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک کی مزید تشریح

حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔

فكنت سمعه الذی یسمع به۔

ترجمہ: پس میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔

علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

فاذا صار نور جلال اللہ سمعاً له سمع القریب والبعید

۔ (تفسیر کبیر صف ۶۸۸، ج ۵)

ترجمہ: جب اللہ کے جلال کا نور اس کی سمع ہو جاتا ہے تو وہ دور اور نزدیک کی آوازوں کو سننے لگ جاتا ہے۔

حضور ﷺ کے ارشادات گرامی: حضرت ابو درود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں کہ مجھ پر درود پڑھے مگر اس کی آواز مجھے

پہنچتی ہے چاہے وہ کہیں ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول ﷺ

وفات کے بعد بھی فرمایا۔ وفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ

انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ (جلاء الافہام صف ۷۳)

صاحب دلائل الخیرات نقل فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک آپ

سے دور رہنے والوں اور آپ کے بعد آنے والے درودوں کا کیا حال ہے تو فرمایا ہم محبت

والوں کا درود خود سنتے ہیں۔

دلائل الخیرات تالیف کرنے کی وجہ: سید محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کو

ایک جگہ پر وضو کرنا تھا لیکن کنویں سے پانی نکالنے کا سامان نہیں تھا بڑے پریشان ہوئے ایک بچی نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں حضرت جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے معاملہ بتایا تو بچی نے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا پانی کناروں تک آپہنچا بچی سے استفسار کرنے پر بچی نے بتایا یہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے یہ سن کر حضرت جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ میں درود پاک پر کتاب لکھوں گا چنانچہ آپ نے دلائل الخیرات کے نام سے کتاب لکھی آپ نے مختلف قسم کے درود پاک کو اپنی خداداد صلاحیت سے ہفتہ بھر کے ہر دن کے لیے بڑے انوکھے اور عجیب انداز میں ترتیب دیا ہے جو اپنی مثال آپ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنی شرف قبولیت عطا فرمائی ہے کہ تمام سلاسل تصوف میں لاکھوں کی تعداد میں بزرگان دین کے پڑھنے کا معمول ہے مولف کتاب نے مندرجہ بالا تحریر کردہ حدیث پاک کو خطبہ کتاب میں لکھا ہے تاہم بطور اعزاز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے روضہ اقدس پر ایک ایسا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جسکے بارے میں خود حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔

بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسکو تمام مخلوق کی آواز سننے کی قوت عطا کی ہوئی ہے اور وہ میرے روضہ پاک پر میری وفات سے لیکر قیامت تک قائم رہیگا جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھیگا وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لیکر کہے گا اے محمد ﷺ فلاں ابن فلاں نے آپ پر ان الفاظ سے درود بھیجا ہے۔ (فصائل الکبریٰ جلاء الافہام)۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لئے (ایسے) فرشتے بھی ہیں جو زمین میں چلنے پھرنے والے ہیں اور مجھ پر میری امت کی طرف سے (پڑھے گئے) سلام پہنچاتے ہیں۔ (نسائی، دارمی)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد

فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے پاس حاضر خدمت تھے کہ اچانک آپ ﷺ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمة اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا حضرت جعفر بن ابی طالب فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اوپر سے گذرے ہیں انہوں نے مجھے سلام کیا جسکا میں نے جواب دیا ہے۔ (المستدرک حاکم، خصائص کبریٰ)

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ شام کے وقت نکلے تو آپ ﷺ نے ایک آواز سنی ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ (بخاری شریف)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تو سنتا ہے جو میں سنتا ہوں انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول ﷺ میں نہیں سنتا فرمایا کیا تو نہیں سنتا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ (المستدرک حاکم)

بے مثال سماعت

حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ لاؤ لشکر کے ساتھ تشریف لئے جا رہے تھے یہاں تک کہ جب وہ ایک میدان میں اترنے لگے جہاں پر چیونٹیوں کی ایک وادی تھی ایک لنگڑی چیونٹی جو ان کی ملکہ تھی اس نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگی اے چیونٹیو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر والے بے خبری کے عالم میں تمہیں کچل نہ دیں کیونکہ چیونٹی جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں صاحب عدل و انصاف ہیں اس لئے اگر چیونٹیاں کچل بھی جائیں گی تو یہ سب کچھ بے خبری کے عالم میں ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز تین میل کے فاصلے سے سن

لی! سبحان اللہ حالانکہ چیونٹی کی آواز کو کوئی آدمی قریب سے بھی نہیں سنتا۔ فتبس

ضاحکا من قولها۔ (القرآن) حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا چیونٹیوں کی ملکہ کو اپنی ہتھیلی پر بٹھا لیا اور پوچھا کہ تم نے چیونٹیوں سے ایسا کیوں کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آتا ہے گھروں میں گھس جاؤ چیونٹیوں کی ملکہ نے عرض کیا میں نے یہ بات احتیاطاً کہی تھی کیونکہ مجھے سب نے ملکہ بنایا ہے میں ان کی بادشاہ ہوں تو پھر مجھے ان کی فکر کرنا اور ان کو ہر آفت و پریشانی سے بچانا میرا فرض ہے۔ (بادشاہ کو اپنی رعیت کا غم خوار ہونا چاہیے۔ کلام الملوک ملوک الکلام)

حضرت سلیمان علیہ السلام جب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو آپ نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا یہاں تک تمام چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ (سبحان اللہ)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن لیا

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر ایک شخص کو امیر بنایا جس کا نام حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے پکار کر کہا یا ساریہ الجبل کہ اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کو لازم پکڑو چنانچہ لشکر سے ایک قاصد آیا کہنے لگا اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم دشمن کے مقابل ہوئے تو تقریباً ہماری شکست ہوئی (ہونے کو تھی) تو ایک پکارنے والے نے پکارا اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کو لازم پکڑو ہم نے اپنی پٹھیں پہاڑ کی طرف کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے (دشمن) کو شکست دی۔ (بیہقی)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثنائے خطبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی موجودگی میں یا ساریہ الجبل کی آواز پکار کر دی اس واقعہ میں حضرت فاروق اعظم

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی کرامت نہیں بلکہ کئی کرامات ہیں جو آپ کی خلافت کے حق اور سچ ہونے کی واضح دلیل بھی ہیں۔

1- حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ جنگ اتنی دور سے دیکھ لیا۔

2- حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنے دور تک پہنچی۔

3- حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کی اس آواز کو سن لیا۔

4- آپ کے مشورہ پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے وہ لشکر اسلام جو شکست کھانے کے قریب تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح و کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ (کذافی المرقاۃ)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث پاک کی

مزید تشریح

حدیث پاک:- وبصرہ الذی یبصر بہ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں اسکی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔

علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

واذ صار ذالك النور بصرا له رای القریب والبعید۔ تفسیر کبیر۔

صف ۶۸۸ ج ۵

ترجمہ: اور مومن صالح کے لیے اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اسکی بصر ہو جاتا ہے۔ تو وہ دور و نزدیک سے چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔

شان رسالت

احادیث مبارکہ :- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی تکبیر کہی گئی تو رسول ﷺ نے اپنے چہرے انور سے ہماری طرف توجہ فرمائی فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کرو اور ملکر کھڑے ہو میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ سیدھے رہو سیدھے رہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں تم کو پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ صفوں کے آخر میں ایک شخص تھا جس نے نماز کو بری طرح پڑھا جب سلام پھیرا تو حضور ﷺ نے اسے آواز دی کہ اے فلان کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا کیا تو نہیں دیکھتا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ پر تمہارا کوئی عمل چھپا رہتا ہے اللہ کی قسم میں پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ میں اپنے آگے دیکھتا ہوں۔ (رواہ احمد)

حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضور ﷺ کی آنکھ پاک کے لیے کوئی چیز آڑ یا حجاب نہیں دیکھو حضور ﷺ امامت کے مصلے پر ہیں اور وہ شخص آخری صف میں ہے درمیان میں بہت سی صفیں ہیں مگر حضور ﷺ کی نگاہ پاک اس کی ہر حرکت کو ملاحظہ کر رہی ہے کیوں نہ ہو۔

☆ حضرت سلیمان علیہ السلام تین میل کے فاصلے سے چیونٹی کو دیکھ لیں اور (قرآن پاک کی روشنی میں) اس کی آواز کو سن لیں۔

☆ حضرت آصف بن برخیا شام میں بیٹھے بلقیس کے یمنی تخت کو دیکھ لیں۔

☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھروں کے اندر کھائے ہوئے کھانے اور جمع کئے ہوئے غلے کو

ملاحظہ فرمائیں حضور ﷺ تو سید الانبیاء ہیں۔ (مرآة المناجیح)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی کرو ان میں نزدیکی کرو اپنی گردنیں مقابل رکھو اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں شیطان کو صفوں کی کشادگی میں بکری کے بچے کی طرح گھستا دیکھتا ہوں۔ (ابوداؤد)

معلوم ہوا کہ شیطان مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو وہ طاقت بخشی ہے کہ آپ ہر مخلوق پر نظر رکھتے ہیں شیطان جیسی غیبی مخلوق بھی آپ کی نگاہ سے غائب نہیں۔ چاہے جو شکل بھی اختیار کرے۔

شان رسالت

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تم میرا منہ صرف قبلہ کی طرف دیکھتے ہو اللہ کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع اور نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے بیشک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ (بخاری شریف)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا بے شک میں اپنے پیچھے سے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ (زرقانی، دلائل النبوة)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھا کرتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں۔ (خصائص الکبریٰ)

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا یہاں تک کہ میں نے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ (مسلم شریف)

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

تلبیہ کہتے ہوئے دیکھا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک آپ ﷺ کے ساتھ سفر کیا ہم ایک وادی کے پاس سے گذرے آپ ﷺ نے فرمایا یہ کونسی وادی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وادی ازرق ہے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں آپ ﷺ نے ان کا رنگ بتلایا ان کے بالوں کا ذکر کیا نیز فرمایا کہ انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں رکھی ہوئی ہیں لہیک کہتے ہوئے اس وادی سے گذر رہے ہیں۔ ہم پھر چلے حتیٰ کہ ہم ثنیہ پر آئے آپ ﷺ نے فرمایا یہ کونسا ثنیہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ”ہرشی“ ”یالفت“ ہے حضور ﷺ نے فرمایا گویا میں حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں سرخ رنگ کی ایک اونٹنی پر سوار ہیں صوف اون کا جبہ پہنے ہوئے ہیں ان کی اونٹنی کی نیل پوست خرما سے ہے لہیک کہتے ہوئے اس وادی سے گذر رہے ہیں۔ (مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے کہ جس کے لیے عرش الہی نے حرکت کی اور آسمان کے دروازے کھولے گئے اور ستر ہزار فرشتوں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ (نسائی)

قارئین کرام! حضور ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ میں شریک ملائکہ کو بھی دیکھا اور ملائکہ کی تعداد کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ ستر ہزار تھے۔ (سبحان اللہ)

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک جنازہ میں گئے تو آپ ﷺ نے کچھ لوگوں کو سوار دیکھا تو فرمایا کہ تم حیا نہیں کرتے کہ اللہ کے فرشتے پیدل ہیں اور تم گھوڑوں کی پشتوں پر (سوار ہو)۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

قارئین کرام حضور ﷺ نے ملائکہ کو پیدل جاتے ہوئے دیکھا۔

حضور ﷺ نے سوار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ملائکہ کا احترام کرتے ہوئے سوار ہو کر جانے سے منع فرمایا ملائکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نظر نہیں آرہے تھے بایں ہمہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ملائکہ کا احترام کرنے کا حکم فرمایا۔

محفل میں شریک بزرگ ہستی اگر محفل والوں کو نظر نہ بھی آئے تب بھی اس کا احترام نظر آنے والوں کی طرح بجایا جائے۔

فراصة المؤمن

فراستہ المؤمن

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ان فی ذالک لآیات اللمتو سمین۔ (الحجر)

ترجمہ: ان میں صاحب فراست لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

حدیث پاک: اتقوا فراستہ المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ۔ حضرت

ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مؤمن کی فراست سے بچو

کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے (ترمذی) حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت

(دور خلافت) میں لوگ حاضر تھے اتنے میں ایک شخص آئے بعد اس کے حضرت عثمان

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمناک ہو کر عام طور پر خطاب کیا کہ لوگو کیا حال ہے کہ تم میں سے

بعض آدمی یہاں اس طرح آتا ہے کہ اس کی آنکھوں نے زنا کیا ہے پھر اگر باز نہ آویں تو

آئندہ میں درے ماروں گا حال یہ تھا کہ ایک شخص نے راستہ میں ایک اجنبیہ عورت کو مکرر نظر

شہوت سے دیکھا تھا جب لوگ رخصت ہو گئے تو اس نے بعد توبہ کے حضرت عثمان رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ اے امیر المؤمنین کیا اب بھی وحی آتی

ہے آپ نے فرمایا کہ وحی اب غیر ممکن ہے لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے

فراست عطا فرماتا ہے۔ (مواہب الرحمن)

قارئین کرام! فراستہ المؤمن کے عنوان کے اکثر حوالہ جات الرسالۃ القشیریہ سے نقل

کئے گئے ہیں امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۳۶۵ھ کی الرسالۃ

القشیریہ علم تصوف کی نہایت اہم اور مایہ ناز کتاب ہے اب تو اسکا اردو ترجمہ تصوف کا

انسائیکلو پیڈیا کے نام سے چھپ چکا ہے آپ بھی اسے پڑھ کر ضرور فائدہ اٹھائیں میں نے

کچھ حوالہ جات اسی کتاب سے ذکر کئے ہیں نیز اس ضمن میں مشائخ کرام کے ارشادات

اور مشاہدات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

مشائخ کرام کے ارشادات

(الرسالة القشيرية تصوف کا انسائیکلو پیڈیا)

فراست کی تعریف: حضرت استاد ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ فراست ایک خیال ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے دل پر طاری ہوتا ہے اور دیگر متضاد خیال کو نکال دیتا ہے اور دل پر اسی کا حکم ہوتا ہے۔

حضرت ابو سعید خرازر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جس نے نور فراست سے دیکھا اس نے نور حق سے دیکھا اور اس کے علم کا مواد حق کی طرف سے ہے اس میں کسی قسم کا سہو یا غفلت نہ ہو گی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے جو بندے کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے یہاں نور سے مراد وہ خاص نور ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے مخصوص کیا ہے۔ حضرت کتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فراست ایک یقین کا مکاشفہ ہے اور غیب کا معائنہ ہے اور یہ ایمان کے مقامات سے ہے۔

حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فراست وہ اٹھتے ہوئے انوار ہیں جو (مومن صالح) کے دل میں چمکتے ہیں اور ایسی متمکن معرفت ہے جو غیبوں میں سے ایک غیب دوسرے غیب تک کے رازوں کو اٹھائے ہوئی ہے یہاں تک کہ صاحب فراست اشیاء کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح حق تعالیٰ اسے دکھاتا ہے اس طرح وہ مخلوق کے ضمیر کی باتیں بتانے لگتا ہے۔

حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دل پر غلبہ حق ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسرار کا مالک بنا دیتا ہے چنانچہ وہ ان اسرار کا معائنہ کرتا اور ان کی خبر دیتا ہے۔ حضرت حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ سے نیز مروی ہے فرماتے ہیں کہ صاحب فراست وہ شخص ہے کہ جو پہلی ہی نگاہ سے اپنے صحیح مقصد کو پہنچ جائے اور اسے تاویل یا کمال یا خیال کی

حاجت نہ رہے۔

حضرت شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی تیز فراست والے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی فراست میں کوئی غلطی نہ ہوتی تھی فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے حرام سے اپنی نگاہ نیچی رکھی اور اپنے آپ کو سہولت سے روکے رکھا اور اپنے باطن کو مراقبہ کے ساتھ اور اپنے ظاہر کو حضور ﷺ کی سنت کی تابعداری کے ساتھ ہمیشہ آباد رکھا اور رزق حلال کھانے کا عادی ہوا تو اسکی فراست میں کبھی خطا نہ ہوگی۔

حضرت احمد بن عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اہل صدق کی مجلس میں بیٹھو تو نیک نیتی سے بیٹھو اس لیے یہ لوگ دل کے جاسوس ہوتے ہیں یہ لوگ تمہارے دلوں میں اس طرح داخل ہوتے اور نکلتے ہیں کہ تم محسوس بھی نہیں کر پاتے۔

حضرت جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عارف کون ہے تو فرمایا عارف وہ ہے کہ تو خاموش رہے اور تمہارے دل کی بات کہہ دے۔

قارئین کرام! آپ حضرات نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک کو پڑھا اور اس بارے میں مشائخ کرام کے ارشادات کو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ سے مومن صالح (اولیاء کرام) سے کسی خارق عادت کا ظہور پذیر ہونا بعید بات نہیں ہے۔

وما ذالك على الله بعزیز۔ بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے خارق عادت ظہور پذیر ہونے والی باتیں درحقیقت نبی ﷺ کے معجزات میں شمار ہوتی ہیں اس واسطے کہ اگر وہ رسول ﷺ سچے نہ ہوتے۔ العیاذ باللہ تو اسکی تابعداری کرنے سے خارق عادت باتیں اس سے کیسے ظاہر ہوتیں۔

قارئین کرام! اگرچہ مومن صالح کی فراست کا بیان جاری ہے آگے ایک معجزہ کا ذکر

کرنا چاہتا ہوں لہذا معجزہ اور کرامت میں فرق بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔

معجزہ:۔ انبیاء علیہ السلام سے کسی خارق عادت بات کا ظہور پذیر ہونا معجزہ کہلاتا ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے سچائی معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ سچائی معجزہ کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا کئے جاتے ہیں اور ان معجزات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کرنے کا حکم بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کرنے کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فذا نك برهانن من ربك الى فرعون وملائته۔ (قصص ۳۲ سو یہ)

(تمہاری نبوت کی) دو جھتیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانے کے واسطے یعنی دو معجزے عصا اور پید بیضاء ہیں تمہیں بطور سند دیئے گئے ہیں تاکہ تم فرعون اور اس کی قوم پر ان معجزات کو دکھا کر اتمام حجت کر سکو۔

کرامت:۔ اولیاء کرام سے کسی خارق عادت بات کے ظہور پذیر ہونے کو کرامت کہتے ہیں اولیاء کرام کا حال انبیاء علیہ السلام سے مختلف ہوتا ہے وہ کرامات دکھانے کے مامور نہیں ہوتے بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کرامات کو چھپائیں اور مخفی رکھیں۔ الا ماشاء اللہ

شان رسالت:۔ اگلے عنوان اولیاء کرام کے حالات و واقعات کا آغاز حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔

حدیث پاک:۔ حضرت حذیفہ علیہ السلام سے روایت ہے میں نے اپنی والدہ سے کہا مجھے چھوڑیں (اجازت دیں) میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں اور آپ ﷺ سے اپنے لئے اور تیرے لیے مغفرت کی دعا کراؤں چنانچہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا میں نے آپ ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی آپ ﷺ نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر آپ گھر جانے کے لیے نکلے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا

آپ ﷺ نے میری آواز (آہٹ) سنی تو آپ نے فرمایا کون ہے۔ حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میں نے کہا میں حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں آپ ﷺ نے فرمایا تیری کیا حاجت ہے اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے (پھر فرشتہ کی آمد کے بارے میں فرمایا) یہ فرشتہ ہے آج رات سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اتر اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ مجھ کو سلام کہے اور مجھ کو خوشخبری دے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل جنت عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ (ترمذی کذابی المشکوٰۃ)

قارئین کرام! حدیث پاک کی روشنی میں حضرت حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لیکر گھر سے اس لئے نکلے کہ میں مغرب کی نماز حضور ﷺ کے ساتھ ادا کروں گا نیز آپ ﷺ سے اپنے لئے اور اپنی والدہ ماجدہ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کراؤں گا چنانچہ دربار رسالت ماب میں حاضر ہوئے مغرب کی نماز کے بعد آپ ﷺ نے نوافل پڑھنا شروع کئے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا حضور ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھائی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور ﷺ باہر نکلے حضرت حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ ﷺ کے پیچھے چل پڑے پوری حدیث پاک میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی حاجت کا ذکر کیا ہو حضور ﷺ نے از خود فرمایا کہ حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ تیری

اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ وما ذالك على الله بعزیز

اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ

ہیں آج وہ مائل بہ عطا اور بھی کچھ مانگ

ہر چند کہ مولانا بھرا ہے ترا کشلول

کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ

سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے
جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ

جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود
ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ

سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر
جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ

دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے
یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ

پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج
آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ

(نصیر الدین نصیر)

جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو
اس وسیلے سے کرم اور بھی دوبالا ہو گا

☆☆☆☆☆

اولیاء کرام کے حالات و واقعات (الرسالة القشيرية)

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ مجھے لوگوں کو وعظ کرنے کا حکم فرماتے تھے وعظ کرنے میں مجھ میں جھجک پائی جاتی تھی اور میں اپنے کو اہل نہ سمجھتا تھا ایک رات میں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا جمعہ شریف کی رات تھی حضور ﷺ نے مجھے فرمایا لوگوں کو وعظ کرو میں اٹھ کر صبح سے پہلے ہی حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی حضرت نے مجھے فرمایا کہ تو نے میری بات نہیں مانی یہاں تک کہ آپ ﷺ نے بھی تجھ سے فرمایا دوسرے دن حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو وعظ کرنا شروع کر دیا ایک عیسائی لڑکا بھیس بدل کر اٹھا اور کہا شیخ رسول ﷺ کے فرمان - اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله - کا کیا مطلب ہے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سر جھکایا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ تو مسلمان ہو جا کیونکہ تیرے مسلمان ہونے کا وقت آ گیا ہے چنانچہ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ

حضرت ابوسعید فرزند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں گیا تو ایک فقیر کو دیکھا جس نے دو کرتے پہن رکھے تھے اور لوگوں سے مانگ رہا تھا میں نے دل میں کہا کہ اس قسم کا آدمی لوگوں پر بوجھ ہوتا ہے اس نے میری طرف دیکھا اور کہا یعنی قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ پڑھی۔ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم

فاحذروه۔ (البقرة)

یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بات کو جانتے ہیں لہذا اس سے ڈرو۔

حضرت ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں استغفار کیا تو اس نے پکار کر کہا۔

وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ (الشوریٰ)

اور اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔

حضرت خیرالنساج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں تھا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ میرے دروازے پر ہیں مگر میں نے اس خیال کو دل سے دور کر دیا پھر دوبارہ اور سہ بارہ خیال آیا باہر نکلا تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر تھے انہوں نے فرمایا پہلے خیال پر باہر کیوں نہیں نکلے۔ سبحان اللہ

حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد میں جامع مدینہ میں تھا وہاں فقراء کی ایک جماعت بھی تھی ایک طرف سے خوشبو میں مہکتا ہوا ایک خوبصورت نوجوان آیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جوان تو مجھے یہودی معلوم ہوتا ہے سب نے میری بات کو پسند کیا میں بھی نکل گیا اور جوان بھی نکل گیا پھر وہ جوان لوٹ کر ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ میرے متعلق اس بوڑھے نے کیا کہا تھا۔

انہیں کہتے ہوئے شرم آئی نوجوان نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ شیخ نے فرمایا تھا کہ تم یہودی ہو حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان شخص میرے پاس آیا میرے ہاتھوں کو چومنے لگا اور اسلام لے آیا اس سے اس کا سبب پوچھا گیا تو بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا پایا ہے کہ صدیق کی فرانت میں خطا نہیں ہوتی۔

حضرت ابو عبد اللہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے طوس کو روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر گر پڑے (رواگی کے وقت) اپنے مرید سے فرمایا کہ روٹی خرید لے اس نے اس قدر خرید لی جو دونوں کے لیے کافی ہو جاتی حضرت نے فرمایا زیادہ خرید لو مرید نے ارادتا اس قدر خرید لی کہ دس آدمیوں کے لیے کافی ہو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اپنے پیر کی بات کو سچا نہیں سمجھا (جب روانہ ہوئے) پہاڑ پر چڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو چوروں نے قید کر رکھا ہے اور کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا انہوں نے ہم سے کھانا مانگا حضرت نے فرمایا کہ کھانا ان کو کھلا دو۔ سبحان اللہ (الرسالة)

المشیرۃ)

عالم دنیا:۔ عالم ارواح کے بعد دوسرا عالم عالم دنیا ہے عالم دنیا کا زمانہ موت تک ہے اور اس عالم میں ہر ایک کی زندگی عارضی ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وما ہذا الحیوة الدنیا الا لہو ولعب۔ (القرآن)
اور نہیں ہے حیات دنیا مگر کھیل اور تماشہ۔
عالم برزخ:۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ومن وارثہم برزخ الیٰ یوم یبعثون۔ (القرآن)
اور ان کے آگے اس دن تک برزخ ہے (جس دن) وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ کا زمانہ موت سے حشر تک ہے۔
عالم آخرت:۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اور بے شک آخرت کا گروہی سچی زندگی ہے کیا اچھا تھا اگر جانتے عالم آخرت کا زمانہ حشر سے ابد الابد تک ہے۔

عالم برزخ کا بیان

نحمدہ و نصلیٰ و نسلم علیٰ رسولہ الکریم اما بعد

فاعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم

حتیٰ اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلیٰ اعمل

صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة ہوقائلها ومن ورائہم

برزخ الیٰ یوم یبعثون۔ (المومنون)

ترجمہ: یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئیگی (تو) وہ کہیگا اے میرے رب مجھے (دنیا میں) واپس بھیج دے تاکہ میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں ہرگز نہیں یہ وہ بات ہے جسے وہ (بطور حسرت) کہہ رہا ہوگا۔ اور ان کے آگے اس دن تک برزخ (پردہ) ہے جس دن وہ (قبروں سے) اٹھائے جائینگے۔

عالم برزخ کی تشریح: علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم برزخ کی تشریح کرتے ہوئے کیا ہی موتی بکھیر دئے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

البرزخ علیٰ ثلاثة اقسام مکان و زمان و حال
فرماتے ہیں برزخ تین چیزوں سے عبارت ہے مکان، زمان، حال

مکان: فا المکان من القبر الیٰ علیین تعمرہ ارواح السعداء و

من القبر الیٰ سجنین تعمرہ ارواح الاشقیاء

عالم برزخ کا مکان قبر سے علیین تک جسے نیک روہیں آباد کرتے ہیں اور قبر سے سجنین تک جسے بدکار لوگوں کی روہیں آباد کرتی ہیں۔

زمان: واما الزمان فهو مدة بقاء الخلق من اول من مات

او يموت من الجن والانس الیٰ یوم یبعثون

عالم برزخ کا زمانہ اس میں مخلوق کی بقاء کی مدت ہے جو کسی جن یا انسان کے مرنے سے شروع ہو کر اس وقت تک ہے جب لوگوں کو (قبروں) سے اٹھایا جائیگا۔

حال: واما الحال فاما منعمة معذبة او محبوسة حتیٰ

تخلص بالسؤال من الملكين الفتانين۔ (الحاوی للفتاویٰ)
عالم برزخ میں حال یا تو انعام یافتہ ہوگا یا معذب یا محبوس حتیٰ کہ نکیرین کے سوال و جواب سے خلاصی پائے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب وضاحت فرمادی کہ عالم برزخ کا مکان قبر سے علیین تک اور قبر سے سجین تک ہے ارواح علیین اور سجین کی طرح قبر کو بھی آباد رکھتی ہیں۔

قارئین کرام! علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت کردہ تحریر میں آئندہ لکھے جانے والے مسائل کا حل موجود ہے عالم برزخ کے امور کو عالم دنیا کے امور پر قیاس کر کے انکار کی کوئی صورت نہیں اس لئے کہ عالم برزخ کے امور کو عالم دنیا کے امور پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔
عالم برزخ اور عالم آخرت کے امور عالم دنیا سے مختلف ہیں:۔ علامہ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

والذی قال المحققون الصوفیہ ان الامر فی عالم البرزخ

والاخرۃ علی خلاف عالم دنیا۔ (فتاویٰ الکبریٰ الفقہیہ)

محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ عالم برزخ اور عالم آخرت کے امور عالم دنیا کے امور سے مختلف ہیں۔
علامہ یوسف نہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

ترجمہ:۔ عالم برزخ کے معاملات کو اس جہان کے حالات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے دیکھنے میت کی لحد کتنی تنگ اور ضیق ہوتی ہے باوجود اس تنگی کے دیکھئے کہ منکر نکیر بہت عظیم جسم کے اور بھاری وجود کے ہوتے ہیں لیکن کسی طرح (قبر میں) داخل ہو جاتے اور وہ دو ہی فرشتے لاکھوں مخلوقات کے پاس کیسے پہنچ جاتے ہیں جبکہ بیک وقت ایک منہائے مشرق میں اور دوسرا منہائے مغرب میں مرا پڑا ہوتا ہے ان دو عجیب باتوں کے علاوہ ایک اور بات بھی

نہایت عجیب ہے کہ منکر نکیر کی انگلی سے نہایت تنگ لحد میں سوال و جواب کی تکمیل کے بعد طاقت کھل جاتا ہے جس سے جنتی کے لیے جنت اور جہنمی کے لیے جہنم سامنے نظر آ جاتی ہے۔ حالانکہ جنت سدرۃ المنتہیٰ کے نزدیک ہے اور جہنم نمکین دریا کے نیچے۔ (جوہر البحار) علامہ شہاب الدین الخفاجی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

وان كان حال البرزخ لا يقاس على حال الدنيا۔ (نسيم الرياض ج ۳)
عالم برزخ (اور عالم آخرت) کے حالات کو عالم دنیا پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

عالم دنیا کی عالم برزخ سے نسبت

اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز لکھتے ہیں سیدی محمد بن علی ترمذی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا (عالم) دنیا سے مسلمان کا (عالم برزخ میں) جانا ایسا ہے جیسے بچے کا ماں کے پیٹ سے نکلنا (یعنی بچے کا) اس دم گھٹنے اور اندھیرے کی جگہ سے اس فضا کے وسیع دنیا میں آنا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کو برزخ سے وہی نسبت ہے جو رحم باور کو دنیا سے پھر برزخ کو آخرت سے یہی نسبت ہے جو دنیا کو برزخ سے اب اس سے برزخ و دنیا کے علوم و ادراکات میں فرق سمجھ لیجئے۔ وہ نسبت چاہیے جو علم جنین کو علم اہل دنیا سے ہے۔ (حیات البہوات فی بیان سماع الاموات)

عالم برزخ کا زمانہ۔ علامہ ابوالفضل محمد بن عمر القرشی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

وتقالما بین الدنيا والاخرة من وقت الموت الى البعث فمن

مات دخل البرزخ۔ (صراح)

ترجمہ: برزخ اس زمانے پر بولا جاتا ہے جو موت کی وقت سے لیکر حشر تک ہے پس جو شخص مر گیا وہ برزخ میں داخل ہو گیا۔

عالم برزخ کا آغاز:- برزخی زندگی کا آغاز موت سے ہوتا ہے موت کا آنا یقینی ہے قرآن کریم میں ہے۔

کل نفس ذائقة الموت۔ ۳/۱۸۵
ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔

کل نفس ذائقة الموت۔ ۲۱/۳۵
ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔

کل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون۔ ۲۹/۵۷
ترجمہ: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر ہمارے یہی طرف پھرو گے۔

این ماتکونو ایدر کم الموت۔ ۴/۷۸
ترجمہ: تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی۔

کل شیء ہالک الا وجہہ۔ ۲۹/۸۸
ترجمہ: ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے۔

قل ان الموت الذی تفرون منه فانہ ملقیکم۔ ۲۳/۸
ترجمہ: تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے۔

کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ ۵۵/۲۷
ترجمہ: زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔

موت مخلوق ہے:- موت کے بارے میں اختلاف ہے ایک جماعت اسے عدمی کہتی ہے احناف کے نزدیک یہ صفت وجودی ہے اور موت مخلوق ہے اور اسکی دلیل یہ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

الذی خلق الموت والحیاء۔ ۶۷/۲

ترجمہ: وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔

مفسرین کرام کی رائے: شیخ زادہ علی البیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

خلق الموت والحیاء واحتج اهل السنة بهذه الاية على ان

الموت صفة وجودیه وقالوا لو كان امرأ عدمیة لما تعلق به

الخلق والتکوین۔ ۶/۳۔

ترجمہ: اہل سنت اسی آیت کریمہ کو حجت بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موت صفت وجودی ہے

اگر موت صفت عدمی ہوتی تو خلقت اور تکوین اس سے متعلق نہ ہوتے۔

تفسیر کبیر میں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے۔

الذی خلق الموت والحیوة والعدم لایکون مخلوقا هذا

هو التحقیق۔ تفسیر کبیر۔ ۱۷۰/۱۸

ترجمہ: وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ احناف دلیل پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ موت عدمی

چیز نہیں ہے۔ اس لئے کہ عدم مخلوق نہیں۔ یہی تحقیق ہے

تفسیر ابی السعود میں ہے۔

والموت عند اصحابنا صفة وجودیة مضارة للحيوة۔ (تفسیر

ابی السعود ۱۹۳)

ترجمہ: خفیوں کے نزدیک موت صفت وجودی ہے اور حیات کی ضد ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے۔

والموت عند اهل السنة صفة وجودية - (روح البيان ۷۴/۲)

ترجمہ: اہل سنت کے نزدیک موت صفت وجودی ہے۔

علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

الموت ليس بعدم انما هو انتقال من دار الى دار - (عینی ۶)

ترجمہ: موت عدی چیز نہیں ہے بلکہ موت ایک جہان جسے دوسرے جہان کو منتقل ہونے کا نام ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

موت بالکل مٹ جانے اور فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے بلکہ موت کے معنی یہ ہیں کہ روح کا لگاؤ بدن سے چھوٹ جائے اور ان دونوں میں جدائی ہو جائے اور ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جائیں۔

حیان ابن الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب -

ترجمہ: موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔

موت کا وقت مقرر ہے

موت کے مقررہ وقت میں تاخیر نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ولن يوخز الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون

المنافقون۔

ترجمہ: اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتے جب اسکی موت کا وقت آجاتا ہے اور اللہ ان

کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔

حدیث پاک: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ

نے فرمایا ہر آدمی کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن جمع رہتا ہے پھر چالیس دن کے بعد لہو کی پھٹکی ہو جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسکی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے وہ اس میں روح پھونکتا ہے پھر چار باتیں لکھنے کا اسے حکم ہوتا ہے۔

1۔ اسکی روزی لکھتا ہے 2۔ اسکی موت کو لکھتا ہے 3۔ اسکے عمل کو لکھتا ہے 4۔ اور یہ لکھتا ہے کہ نیک بخت (بہشتی) ہوگا یا بد بخت (دوزخی) ہوگا۔ (الحدیث)

ماں کے پیٹ میں موت کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی اور اس کو کب موت آئیگی۔

حدیث پاک:۔ طبرانی نے ایک طویل حدیث پاک روایت کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ

ملک الموت نے حضور ﷺ سے بیان کیا کہ میں آدمی کی روح قبض کرتا ہوں تو اسکے لواحقین رونے لگتے ہیں میں دروازہ پر کھڑا ہو جاتا ہوں اس روح کو لئے ہوئے اور کہتا ہوں کہ اے رونے والو اللہ تعالیٰ کی قسم ہم نے اس آدمی پر ظلم نہیں کیا وقت سے پہلے جلدی نہیں کی اور روح قبض کرنے میں ہماری کچھ خطا نہیں تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہو ثواب پاؤ گے اور برا مانو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے اور ہم کو تمہاری طرف (روح قبض کرنے کے لیے) پھر آنا ہے

۔ (انوار ساطعہ صفحہ ۱۲۴)

ایک ساعت بھی نہ ٹھہرے جنکا وعدہ آگیا

جی کے جی ہی میں رہے ارمان سارے چل بے

دیکھتے ہی دیکھتے اکثر عزیز و آشنا

تندرست اور خوبصورت چلتے پھرتے چل بے

ہائے کوئی بھی نہ پلٹا اور نہ بھیجی کچھ خبر

چپکے چپکے شہر خاموشاں میں ایسے چل بے

چل بسیں گے ایک دن ہم بھی اسی صورت آہ

جس طرح زیر زمین یہ لوگ اگلے چل بے
 جیسے چل بسا بیاں اوروں کا ہم کرتے ہیں آہ
 دوست کل ہم کو کہیں گے آج وہ بھی چل بے
 خانہ اصلی میں چلنے کی ذرا فکر تو کر
 کھول آنکھیں علمی تیرے یار کیسے چل بے

اختیاری موت

انبیاء علیہ السلام کی موت اختیاری ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ مخلوق کے خالق ہیں خالق کائنات نے اپنی مخلوق کے لیے موت کا وقت
 مقرر کر رکھا ہے اس میں تاخیر کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق و اكن من

الصالحين الى واللہ خبير بما تعملون۔ (سورۃ منافقون)

ترجمہ: اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ
 خیرات کر لیتا اور نیکو کاروں میں سے ہو جاتا۔

اور اللہ ہرگز کسی کو مہلت نہیں دیتے جب اسکی موت کا وقت آجاتا ہے اور اللہ ان کاموں سے
 خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اٹھی

لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان کی موت
 اختیاری ہوتی ہے چاہیں تو دنیا میں رہیں چاہیں تو آخرت میں۔

وفات سے قبل ارشادات نبوی ﷺ

حضور ﷺ نے وفات سے پہلے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کے تذکرے باعلام اللہ تعالیٰ شروع فرمادیئے تھے۔

احادیث مبارکہ :- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورۃ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا مجھے موت کی خبر پہنچائی گئی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روئیں تو حضور ﷺ نے فرمایا مت رو اس لئے کہ سب سے پہلے میرے گھر والوں سے تو مجھے ملے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہنس پڑیں۔ الی آخرہ (رواہ الدارمی)

حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن پاک کی آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی۔ ترجمہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔ اٹھی

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس دن کو جانتا ہوں جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے مقام نزول کو بھی جانتا ہوں وہ مقام عرفات کا تھا اور جمعہ شریف کا دن تھا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جو جمعہ کو تھا نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے کامل ہونے پر خوشیاں منائیں مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل بات یعنی حضور ﷺ کی وفات کے قریب ہونے کو سمجھ گئے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا یہی وجہ تھی کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا لوگو مجھ سے مناسک حج سیکھ لو شاید آئندہ سال ہم یہاں اکٹھے نہ ہوں۔ (زرقاتی)

۱۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات حضور ﷺ کی وفات سے چھ ماہ بعد ہوئی۔

فرمایا۔ لعلى لا اراکم بعد عامى هذا۔ (الحديث)

فرمایا شاید کہ تم اس سال کے بعد مجھ نہ دیکھ سکو۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا بیٹی جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان شریف میں میرے ساتھ ایک بار قرآن پاک دہرایا کرتے تھے مگر اس بار (وفات کے سال) دو بار قرآن پاک دہرایا لہذا میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔

حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر موت کے اختیاری ہونے کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ایہا الناس انما انا بشریو شک ان یاتینی رسول ربی

فاجیب۔ (زرقانی) لوگو میں بشر ہوں عنقریب اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آئے گا تو

میں اسکی بات مان لوں گا وفات والے سال حضور ﷺ نے رمضان شریف میں بجائے آخری

عشرہ کے بیس دنوں کا اعتکاف فرمایا۔

حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار قطار رو پڑے:۔ حضرت معاذ ابن جبل

رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ کے بڑے پیارے صحابی ہیں دربار رسالت سے ان کو بہت بڑا

شرف حاصل ہے۔ اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا واللہ انی

لاحبک یا معاذ اللہ کی قسم اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ حضور

ﷺ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجے لگے تو ان کو الوداع کرنے

کی حالت عجیب تھی۔ حضور ﷺ نے ان کو سوار ہونے کا حکم فرمایا اور خود ساتھ ساتھ پیدل

چلے اور نصیحتیں فرمائیں اور آخر میں فرمایا اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید تیری اب میرے

ساتھ ملاقات نہ ہو اور تیرا گذر میری اس مسجد (نبوی) اور قبر کے پاس سے ہو۔ فبکی

معاذ جشعا لفراق ﷺ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول ﷺ کے فراق

کے تصور پر زار و قطار رو پڑے (حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقت کو دیکھ کر) حضور ﷺ نے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے فرمایا میرا قرب متقی لوگوں کو حاصل ہوگا خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ (مسند احمد)

وفات کے موقع پر ارشادات نبوی ﷺ

احادیث مبارکہ :- حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا فرماتے تھے کہ کوئی نبی بیمار نہیں ہوتا مگر اسکو اختیار دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ حضور ﷺ اس بیماری میں کہ فوت کئے گئے تھے اور حضور ﷺ کی آواز کو سختی نے پکڑا تھا میں نے سنا آپ فرماتے تھے۔ کہ شامل فرما مجھ کو ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا انبیاء میں سے صدیقوں میں سے اور شہداء اور صالحین میں سے (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں) میں نے جانا کہ آپ ﷺ اختیار دئے گئے ہیں۔ (متفق علیہ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ منبر پر بیٹھے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ کو اختیار دیا ہے کہ اسکو دنیا کی ناز و نعمت دے اگر چاہے یا وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے پسند کیا بندہ نے اس چیز کو جو اللہ کے پاس ہے۔

شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :- یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہا کہ ہمارے ماں و باپ آپ پر قربان ہوں ہم نے تعجب کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لوگوں نے کہا اس شیخ کی طرف دیکھو کہ رسول ﷺ ایک بندے کی خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اگر چاہے تو اسکو دنیا کے ناز و نعمت دے اور اگر چاہے تو جو اس کے پاس ہے وہ دے اور وہ کہتے ہیں ہمارے ماں و باپ آپ پر قربان ہوں خود رسول اللہ ﷺ اختیار دئے گئے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ جانتے تھے (متفق علیہ) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ تندرستی کی حالت میں فرماتے تھے کہ کسی

نبی کی روح کو اس وقت تک ہرگز قبض نہیں کیا جاتا مگر اسکو جنت میں جگہ دکھائی جاتی ہے پھر اسکو اختیار دیا جاتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ پر موت پر نازل ہوئی پھر آپ ہوش میں آئے تو اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا۔

ارشاد فرمایا الہی پسند کیا میں نے رفیق اعلیٰ کو میں نے عرض کیا کہ آپ اس عالم کو پسند کرتے ہیں اور ہم کو پسند نہیں کرتے میں نے پہچانا یہ قول اشارہ ہے۔

اس حدیث پاک کی طرف جو آپ نے صحت میں فرمائی تھی۔ (متفق علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صحت کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ کسی نبی کو فوت نہیں کیا جاتا مگر اس کو جنت میں اسکی جگہ دکھائی جاتی ہے پھر اسکو اختیار دیا جاتا ہے (چاہے دنیا میں رہنا پسند کریں یا آخرت میں)۔ (متفق علیہ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ ہمارے پاس (گھر سے) نکل کر تشریف لائے اس بیماری کے موقع پر جس میں آپ ﷺ کی وفات ہوئی اس حال میں کہ ہم مسجد میں تھے آپ نے اپنا سر مبارک کپڑے سے باندھا ہوا تھا آپ نے منبر کا قصد کیا ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ گئے منبر پر تشریف فرما ہوئے۔

شان رسالت:۔ ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں

حوض کوثر کو اس جگہ سے کہ جہاں میں کھڑا ہوں دیکھتا ہوں۔ (سبحان اللہ)

پھر ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ہے کہ دنیا اور اسکی آرائش کو اسکے سامنے پیش کیا گیا مگر اس نے آخرت کو اختیار کیا اس نکتہ کو سوائے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی نہ سمجھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور روئے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ جان و مال آپ پر قربان ہوں۔

ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر حضرت محمد ﷺ منبر سے اترے پھر دوبارہ (موت

آجانے سے) اس پر کھڑے نہ ہوئے آج تک۔ (رواہ الدارمی)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے احد کے شہداء پر آٹھ برس بعد زندوں کی طرح نماز پڑھی اور انہیں الوداع کہا۔

آپ ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے فرمایا میں تمہارے لئے (وفات پا کر) سامان درست کرنے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں تمہارے وعدہ کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں حوض کوثر دیکھتا ہوں اس حال میں کہ میں اپنے اس مقام پر ہوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں دیا گیا ہوں۔ الی آخرہ سبحان اللہ (متفق علیہ)

حضور ﷺ کو اختیار دیا گیا

حضرت جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں قریش کا ایک آدمی ان کے باپ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر داخل ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث تمہارے سامنے نہ بیان کروں اس نے کہا ہاں بیان کرو۔ ابوالقاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب آپ ﷺ بیمار ہوئے تو آپ ﷺ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد ﷺ بلاشبہ اللہ نے مجھ کو آپ ﷺ کی طرف بھیجا ہے آپ ﷺ کی تکریم و تعظیم کے لیے اور یہ تکریم و تعظیم آپ کے لیے خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس چیز کے متعلق پوچھتا ہے جو وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو آپ نے فرمایا غمگین اے جبرائیل اور مصیبت زدہ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام حضور ﷺ کے پاس آئے اسی طرح کہا جیسا کہ پہلے دن کہا تھا حضور ﷺ نے بھی پہلے دن جیسا جواب دیا تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ آیا اس کا نام اسماعیل تھا جو لاکھ فرشتوں کا حاکم ہے اور ہر فرشتہ ان میں سے ایک لاکھ فرشتوں پر حاکم ہے تو اس فرشتہ نے آنے کی اجازت مانگی آپ ﷺ نے جبرائیل علیہ السلام سے اس فرشتے کا حال دریافت کیا جبرائیل علیہ

السلام نے کہا یہ فرشتہ موت ہے آپ ﷺ کے پاس آنے کی اجازت مانگتا ہے آپ ﷺ کے پہلے اس نے کبھی کسی سے اجازت نہ مانگی اور آپ کے بعد بھی اجازت نہیں مانگے گا حضور ﷺ نے فرمایا اسکو اذن دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے ملک الموت کو اذن دیا پھر سلام کہا حضور ﷺ کو۔ پھر ملک الموت نے کہا اے محمد ﷺ! اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ ﷺ کی طرف بھیجا ہے اگر آپ حکم کریں روح کے قبض کرنے کا تو میں آپ ﷺ کی روح قبض کروں اگر آپ چھوڑنے کا حکم کریں تو میں اسکو چھوڑ دوں آپ ﷺ نے فرمایا کیا کرے گا تو اے ملک الموت! اس نے کہا میں اس بات کا حکم دیا گیا ہوں اور تمہاری اطاعت کا حکم دیا گیا ہوں۔ علی بن حسین نے کہا جبرائیل علیہ السلام کی طرف آپ ﷺ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے کہا بلاشبہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی ملاقات کا مشتاق ہے نبی ﷺ نے ملک الموت کو فرمایا کہ کر جو تجھ کو حکم کیا گیا ہے ملک الموت نے آنحضرت ﷺ کی روح قبض کر لی جب رسول ﷺ نے وفات پائی۔ گھر کے کونے سے لوگوں نے ایک آواز سنی کہ وہ تسلی دیتا ہے اہلیت کو کہ تم پر سلام ہو اور خدا کی مہربانی اور برکتیں اے اہل بیت قرآن میں ہر مصیبت سے تسلی ہے اور خدا بدلہ دینے والا ہے ہر چیز ہلاک ہونیوالی کا اور ہر فوت ہونے والی چیز کا تدارک کرنے والا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ تقویٰ اختیار کرو اسی سے امید رکھو اور نہیں ہے مصیبت زدہ مگر وہ شخص کہ جو ثواب سے محروم کیا گیا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم جانتے ہو کون ہے تعزیت کرنے والا۔ یہ خضر علیہ السلام ہیں روایت کیا اسکو بہتینی نے دلائل النبوة میں۔ علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضور ﷺ کا جب عالم دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کیا ملک الموت دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ حضور ﷺ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام اسے کہو اندر آنے کی اجازت ہے ملک الموت حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کو سلام عرض کیا پھر یوں عرض گزار ہوئے میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے کہ روح قبض کرنے کے

سلسلے میں آپ ﷺ کی اطاعت کروں اگر آپ چاہیں تو روح قبض کروں آپ نہ چاہیں تو نہ کروں
 آپ ﷺ نے فرمایا روح قبض کر جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے۔ (نسیم الریاض - مشکوٰۃ شریف)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا واقعہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا اور کہنے لگا اپنے رب کے پاس چلیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو تھپڑ مار کر اسکی آنکھ نکال دی ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس واپس گئے اور کہا کہ تو نے مجھے ایسے بندے بھیجے پاس بھیجا ہے جو موت کا ارادہ ہی نہیں رکھتا اور اس نے میری آنکھ نکال دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ لوٹا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کے پاس جاؤ اور کہو آپ (حیات کا ارادہ رکھتے ہیں اگر آپ زندگی اور حیات چاہتے ہیں تو) اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھیے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھادی جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا کہا پھر آپ کو موت آئے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر ابھی سہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ارض مقدسہ سے ایک پتھر پھینکے جانے کے فاصلہ پر میری روح قبض کرنا رسول ﷺ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تم کو کثیب احمر (سرخ ٹیلے) کے پاس راستہ کی ایک جانب ان کی قبر دکھاتا۔ متفق علیہ

فائدہ: اس مقام پر صاحب مشارق الانوار تحریر فرماتے! اس حدیث میں بے دین لوگ طعنہ کرتے ہیں کہ فرشتے کی آنکھ پھوڑنا آدمی سے نہیں ہو سکتا اور ملک الموت تو بموجب حکم الہی آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں مارا اطاعت کیوں نہ کی تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی زیست (زندگی) بہت پیاری تھی۔

اسکا جواب یہ ہے کہ فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا تھا تو آدمی کے خواص اس پر ہوا چاہیں تو اس

صورت سے آنکھ کا صدمے سے پھوٹنا کچھ تعجب نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا نہ تھا۔ بلکہ سمجھا تھا۔ کہ یہ کوئی آدمی ہے۔ جو روح نکالنے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ روح کا نکالنا سوائے فرشتے کے آدمی کا کام نہیں۔ اس واسطے اسکو اپنے پاس سے دھکیلا تھا اتفاقاً آنکھ پر ہاتھ پڑ گیا۔ آنکھ پھوٹ گئی یہ گمان غلط ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو زندگی بہت پیاری تھی اس واسطے کہ جب ملک الموت نے دوسری بار آ کر زیادتی عمر کا پیغام سنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہ کیا (مشارق الانوار)۔

علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکا جواب یہ دیا ہے کہ ملک الموت نے (انبیاء علیہ السلام کے پاس جانے کا طریقہ ترک کر کے) انہیں زندگی اور موت کا اختیار نہیں دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے صرف موت کو پیش کیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب میں آئے۔ اور اسکو تھپڑ مارا اور آنکھ نکال دی۔ دوسری بار جب ملک الموت نے موسیٰ علیہ السلام کو زندگی اور موت کے درمیان اختیار دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے موت کو قبول کر کے آخرت کو پسند فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاء

رب ادنسی من الارض المقدسة رمية حجر۔ (متفق علیہ)۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ اے میرے رب مجھ کو ارض مقدسہ سے پتھر پھینکنے کی مقدار کے قریب یعنی جب میں ارض مقدسہ سے پتھر پھینکنے کے فاصلے پر ہو جاؤں تو پھر میری روح قبض کر لینا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا حضور ﷺ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں وہاں موجود ہوتا تو راستے کے ایک طرف سرخ ٹیلے کے قریب ان کی قبر تم کو دکھاتا۔ (متفق علیہ)

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب دفن

ہونے کی تمنا اس لیے کی تھی کہ وہاں انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی قبور تھیں۔

معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جس وقت اور جس جگہ چاہتے ہیں وہاں انکی روح قبض کی جاتی ہے۔

قارئین کرام! آپ ذرا انصاف کی نظر سے پڑھیں یہ باتیں مبالغہ آمیزی کی نہیں بلکہ

حقیقت حال کی ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی خصوصی کرم نوازی سے انبیاء کرام کو کتنی بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے قرآن پاک کی روشنی میں موت کے مقررہ وقت میں کسی کے لیے کوئی تاخیر نہیں انبیاء علیہ السلام کی موت اختیاری ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت میں کتنی دیر ہوئی یہ رب تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔

حدیث پاک جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے جو اس سے قبل حرف بحرف تحریر کی جا چکی ہے حدیث پاک کی روشنی میں ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ علامہ ابن عربی کی تحریر کے مطابق ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندگی اور موت کا اختیار نہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب میں آئے انکو تھپڑ مارا ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ ملک الموت دربار الہی میں واپس ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھ لوٹادی۔ اور ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیغام دے کر واپس بھیجا۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس تشریف لائے اللہ رب العزت کا پیغام سنایا۔

فان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت

يدك من شعره فانك تعيش بها سنة۔ (متفق علیہ)۔ اے میرے کلیم! اگر

آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیں جسقدر بال آپکے ہاتھ کے

نیچے آگئے اتنے سال زندہ رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا۔ اس نے کہا

پھر موت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب زندگی اور موت کا اختیار دیا گیا تو آپ نے

موت کو پسند فرمایا۔

قال فالان من قريب ابھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ رب العزت سے عرض کیا رب رب ادنی من الارض المقدسة رمية الحجر۔ اے میرے رب مجھ کو ارض مقدسہ سے ایک پتھر پھینکنے کی مقدار قریب کر دیں (ہونے دیں) اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا جب ارض مقدسہ (بیت المقدس) سے ایک پتھر پھینکنے کی مقدار قریب ہوئے تو آپ کی روح قبض کی گئی۔ سبحان اللہ

شان رسالت: حضور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔

والله لو انى عنده لارىتكم قبره الى جنب الطريق عند الكثيب الاحمر۔ (متفق عليه)۔ اللہ کی قسم اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تم کو سرخ ٹیلے کے پاس راستہ کی ایک جانب ان کی قبر دکھاتا۔ (حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور ﷺ کی تشریف آوری سے تقریباً 2320 سال پہلے کا ہے) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی تو میں ریت کے ٹیلے کے نزدیک سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

حلیہ مبارک: حضور ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گندم گوں رنگ کے لمبے قد کے گھنگھریالے بالوں والے ہیں گویا شنوءۃ قبیلے سے ہیں۔ (متفق عليه) سبحان اللہ۔

حضرت ادریس علیہ السلام کی موت

حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیث بن آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر تین صحیفے نازل کئے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم ﷺ نے شب معراج

حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان چہارم پر دیکھا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مردی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ کیسا ہوتا ہے تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹادی آپ زندہ ہو گئے۔ فرمایا اب مجھے جہنم دکھاؤ۔ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا جہنم دیکھ کر آپ نے مالک داروغہ جہنم سے فرمایا۔ کہ دروازہ کھولو میں اس پر گزرنا چاہتا ہوں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ آپ اس پر سے گزرے پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت بھی دکھاؤ وہ آپ کو جنت میں لے گئے آپ دروازہ کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے تھوڑی دیر انتظار کر کے ملک الموت نے کہا۔ کہ آپ اب اپنے مقام پر واپس تشریف لے چلئے۔ فرمایا اب میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤنگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور یہ فرمایا وان منکم الا واردها۔ کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے تو میں گذر چکا ہوں اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وما ہم منها بمنخرجین۔ وہ جنت سے نکالے نہیں جائینگے اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ حضرت ادریس نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا اور میرے اذن سے جنت میں داخل ہوئے انہیں چھوڑ دو وہ جنت ہی میں رہینگے۔ چنانچہ آپ وہاں زندہ ہیں۔ (خزائن العرفان)

قابل رشک موتیں:۔ موت اور عالم برزخ کا ذکر کرنے سے پہلے چند ایسی موتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جن کے موتی کو اللہ تعالیٰ خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ مجھے اور آپ کو بھی ان میں سے کسی کا شرف حاصل ہو جائے۔ وما ذالك على الله بعزیز

شہید کی موت: - ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل

احياء ولكن لا تشعرون - ۲/۱۵۴

ترجمہ: اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہاں تمہیں خبر نہیں۔

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء

عند ربهم يرزقون - ۳/۱۶۹

ترجمہ: اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں۔

شہداء کرام کو رزق دیا جاتا ہے اور رزق زندہ ہی کھاتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں دو جملوں کے درمیان بل کا لفظ واقع ہوا ہے۔ بل جسکی وضع اعراض کے لیے ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب لفظ بل کے بعد جملہ ہو تو بل پہلے جملے کا ابطال کرتا ہے اور دوسرے جملے کا ثبوت۔ مشرکین اور منافقین شہداء کے بارے میں اس فاسد عقیدہ کے شکار تھے کہ شہداء مر گئے تو دونوں آیتوں میں لفظ بل کے بعد احياء کا ذکر کر کے انکے عقیدے کو باطل کرتے ہوئے وضاحت کر دی گئی۔ کہ شہید حقیقت میں زندہ ہیں اور انکو رزق دیا جاتا ہے۔

شہید کی شان: - حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور

ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کے لیے چھ (اعزاز) ہیں 1۔ (دشمن پر) پہلا وار

کرنے سے اسے بخش دیا جاتا ہے اور اسے جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے 2۔ عذاب

قبر سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے 3۔ اور فزع اکبر (بڑی گھبراہٹ سے اسے امن میں رکھا

جاتا ہے) 4۔ اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائیگا اسکا ایک یا قوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہو

گا 5۔ بہتر (72) حوریں اسکے نکاح میں دی جائیں گی 6۔ شہید کی اپنے رشتہ داروں میں سے

ستر آدمیوں کے لئے شفاعت قبول ہوگی۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

شہید کی آرزو:- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو جنت میں داخل ہو اور پھر اس بات کو پسند کرے کہ وہ دنیا کی طرف لوٹے اور اس کے لیے وہ چیز ہو جو زمین (دنیا) میں ہے مگر شہید آرزو کریگا کہ وہ دنیا کی طرف لوٹے اور دس بار (اللہ کے راستے) مارا جائے اس لیے کہ وہ شہادت کی عظمت (ثواب) کو دیکھتا ہے۔ (متفق علیہ)

شہید کا ثواب پانے والی موتیں (حکمی شہید):- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے (صحابہ سے) فرمایا کہ تم کن لوگوں کو شہید سمجھتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے حضور ﷺ نے فرمایا۔ اس طرح تو میری امت میں شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی۔ حضور ﷺ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا گیا وہ شہید، جو اللہ کی راہ میں مر گیا وہ شہید، جو طاعون کی بیماری سے مر گیا وہ شہید، جو پیٹ کی بیماری سے مرادہ شہید۔ (مسلم)

مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی ر. ن. م. اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے۔ ان کی ارواح پر رزق پیش کئے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں۔

شہید وہ مسلمان مکلف ظاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہو یا معرکہ جنگ میں مرایا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی ہو اسپر دنیا میں یہ احکام ہیں کہ غسل نہ دیا جائے اور نہ کفن بلکہ اپنے کپڑوں میں ہی رکھا جائے اسی طرح اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا میں تو یہ احکام جاری نہیں ہوتے لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے۔ جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا طلب علم، سفر حج، فرض، راہ خدا میں مرنے والا اور نفاس میں مرنے والی عورت پیٹ کے مرض اور طاعون اور ذات الجذب اور سل میں اور جمعہ کے دن مرنے والے

وغیرہ۔ (خزائن العرفان)

مسافر کی موت: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم

ﷺ نے فرمایا حالت سفر میں (مسافر کی) موت شہادت ہے (ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی جو مدینہ ہی میں پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ حضور ﷺ نے اسکی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر فرمایا کہ کاش یہ شخص اپنے پیدا ہونے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ مرا ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ کیوں

آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسری جگہ مرتا ہے تو اسکے وطن سے لیکر اس کے مرنے کی جگہ تک اس کے لیے جنت میں پیائش کی جاتی ہے۔ (نسائی، ابن ماجہ)

جمعہ کے دن موت: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا جو کوئی جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مرے گا اسکو اللہ تعالیٰ جل شانہ عذاب قبر سے نجات دیگا اور جب قیامت کے دن وہ میدان محشر میں آئے گا تو اس کے بدن پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ (شرح الصدور)

حق گوئی موت: حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں

نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ شہداء میں اللہ کے نزدیک سب زیادہ با فضیلت شہید کون ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اچھا اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے روکے اور وہ حاکم اس شخص کو مار ڈالے۔

صابرہ عورت کی موت: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے غیرت اور خودداری رکھی ہے اور مردوں کے لیے جہاد ضروری قرار دیا ہے۔ جو عورت اپنی سوکن کی موجودگی میں صبر اور ضبط کے دامن کو پکڑے

رکھے (اللہ تعالیٰ) اسے شہید کا اجر دینگے۔

حدیث میں ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہیدوں کے درجے میں کوئی اور بھی ہوگا حضور ﷺ نے فرمایا۔ ہاں جو شخص اپنی موت کو بیس مرتبہ ہر روز یاد کرے گا۔ (انوار ساطعہ صفحہ ۱۲۵)

موزن کی موت:- حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا وہ موزن جو کارِ ثواب سمجھ کر اذان دیتا ہے وہ خون میں لتھڑے ہوئے شہید کی طرح ہوگا جب مرے گا اس کے جسم میں کیڑے نہ پڑینگے۔ (طبرانی)

تاجر کی موت:- حدیث پاک میں ہے سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا۔

رمضان شریف میں موت:- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ

نے فرمایا کہ جو (مسلمان) شخص ماہ رمضان میں مرے گا وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا۔ (شرح الصدور)

روزہ کی حالت میں موت:- حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے روزہ رکھا اور اسی حال میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے قیامت تک کے روزہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ (شرح الصدور)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو

شخص رمضان کے اخیر مہینے میں انتقال کرے وہ جنتی اور جو شخص عرفہ (نویں ذالحجہ) کو آخر دن میں مرے گا وہ جنتی ہوگا اور جو شخص صدقہ دے کر مرے گا وہ جنتی ہوگا۔ (شرح الصدور)

قرآن پاک حفظ کرتے ہوئے موت:- روایت ہے فردوسِ دلیلی میں کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص قرآن شریف یاد کرتا تھا اور ختم کرنے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے

اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں فرشتہ مقرر کرتا ہے کہ پورا قرآن شریف اس کو حفظ کرائے یہاں تک

کہ قیامت کے دن حافظ قرآن ہو کر اپنی قبر سے اٹھے گا۔ (شرح الصدور)

مدینہ منورہ میں موت:۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص مدینہ میں مر سکتا ہو اسے مدینہ ہی میں مرنا چاہیے۔ کیونکہ جو شخص مدینہ میں مرے گا اسکی شفاعت کرونگا۔ (احمد، ترمذی)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا:۔ اللهم ارزقني شهادة

في سبيلك واجعل موتي ببلد رسولك۔

ترجمہ: اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول ﷺ کے شہر (مدینہ منورہ) میں موت عطا فرما۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکے گا تو آپ نے فرمایا انشاء اللہ ایسا ہی ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے آپکی دعا قبول فرمائی۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت:۔ ۲۳ ہجری میں ایک مجوسی غلام ابولؤلؤ

فیروز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور شکایت کی کہ میرا مالک میری اجرت کا مالکانہ مجھ سے زیادہ لیتا ہے آپ اس سے بلا کر کہیں کہ وہ کم لیا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ

عنہ نے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے۔ فیروز نے کہا کہ میں بڑھئی کا کام کرتا ہوں اور ہوائی چکیاں بناتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ تیری کمائی میں سے تیرا مالک تجھ سے کیا لیتا ہے۔ فیروز نے

کہا دو درہم روزانہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ایک ہنرمند آدمی ہے اور ہوائی چکیاں بناتا ہے۔ تجھے آمدنی معقول ہوتی ہے اور اس آمدنی پر دو درم روزانہ مالکانہ زیادہ نہیں

بلکہ واجب ہے۔ فیروز سخت رنجیدہ ہوا اور اس نے کہا کہ بہت بہتر میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤنگا کہ وہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ غلام

مجھے دھمکی دیتا ہے۔ اگر میں کسی شخص کو محض شک کی بناء پر سزا دینے والا ہوتا تو اس غلام کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہ کہا اور وہ رنجیدہ دل چلا گیا۔

ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ فیروز خنجر لیکر مسجد میں آیا اور آگے بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پے در پے چھ وار کئے حاضرین نے فیروز کو پکڑنے کی کوشش کی فیروز نے تیرہ آدمی زخمی کئے جن میں سے سات جاں بحق ہو گئے۔ آخر ایک آدمی نے اسکو گرفتار کر لیا فیروز نے جب اپنے آپ کو موت کے پنجے میں گرفتار دیکھا تو فی الفور خنجر اپنے سینے میں مار کر وہیں ڈھیر ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے مگر اسی حالت میں باقی نماز پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے کہ ان کو قتل کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ ایک غیر مسلم آتش پرست تھا آخر ماہ ذوالحجہ ۲۳ میں وفات پائی آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے دس سال چھ ماہ حکمرانی کی ہے۔

سورۃ یسین پڑھنے پر شہید کا ثواب۔ من داوم علی قراۃ یسین کل لیلۃ فمات مات شہیدا۔ (طبرانی)۔ جو شخص ہر رات کو ہمیشہ سورۃ یسین پڑھے اور مر جائے تو شہید مرے گا۔

سورۃ حشر کی آخری آیات پر شہید کا ثواب۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم اور سورۃ حشر کی آخری آیتیں (هو اللہ الذی سے آخر تک) پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کے لیے شام تک بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ شخص اس دن مر جاتا ہے تو اسکی موت شہید کی موت ہوتی ہے اور جو شخص یہ (آیات) شام کو پڑھتا ہے وہ بھی اسی اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

آیت کریمہ پڑھنے پر شہید کا ثواب:- حدیث پاک میں ہے جو مسلمان اپنے مرض میں حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا (لا الہ الا انت سبحنک انی کنت من الظلمین) چالیس مرتبہ پڑھے اور اسی مرض میں انتقال کرے تو اسے شہید کا ثواب دیا جاتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جو شخص روزانہ پچیس مرتبہ یہ دعا اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت پڑھے اور بستر مرگ پر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔

سو مرتبہ درود پاک پڑھنے پر شہید کا ثواب:- حضور نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان برآة یعنی نفاق اور آگ سے نجات لکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھیں گے۔

شہادت کی طلب:- حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے شہادت کی موت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مراتب پر پہنچا دے گا اگرچہ وہ بستر پر مرے۔ سبحان اللہ (مسلم)

سنت رسول ﷺ کی عظمت

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص

میری امت کے فساد کے وقت میری سنت پر مضبوطی سے قائم رہیگا اس کو سو
(100) شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ (طبرانی)

حضور ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندہ (مومن) کو ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے
جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائینگے۔

سنت پر عمل پیرا ہونے کا ایمان افروز واقعہ:- قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے
شفاء شریف میں ایک ایمان افروز واقعہ نقل کیا ہے۔

واقعہ:- حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے
ساتھ نہانے کے لیے گیا ہم سب تہبند باندھ کر پانی میں داخل ہوئے جب میرے ساتھی پانی
کے درمیان (گہرے پانی) میں پہنچے اور ان کے ستر چھپ گئے تو سب نے تہبند کھول دئے
۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عننت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنا تہبند نہ کھولا
تہبند باندھ کر ہی نہایا۔ رات ہوئی میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے اے
احمد تجھے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سنت پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے تجھے بخش دیا۔ اور تجھے امام
بنادیا میں نے آواز دینے والے سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں
۔ (شفاء شریف)

مومن صالح کی موت

مومن صالح کے لیے انعام و اکرام کا خصوصی سلسلہ عالم برزخ یعنی موت آنے کے وقت
سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ام حسب الذین اجترحوا هوا السیات ان نجعلهم کا الذین
آمنوا و عملوا الصلحت سواء محیاهم و مماتہم ساء ما

یحکمون۔ ۴۵/۲۱

ترجمہ: کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دینگے جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے ان کی ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے۔ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔
یعنی ایمانداروں اور کافروں کی موت و حیات برابر ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہوا کیونکہ ایماندار زندگی میں طاعت پر قائم رہے اور کافر بدیوں میں ڈوبے رہے تو ان دونوں کی زندگی برابر نہ ہوئی ایسے ہی موت بھی یکساں نہیں۔ کہ مومن کی موت بشارت و رحمت و کرامت پر ہوئی ہے اور کافر کی رحمت سے مایوسی اور ندامت پر۔

شان نزول:۔ مشرکین مکہ کی ایک جماعت نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ گر تمہاری بات حق ہو اور مرنے کے بعد اٹھنا ہو تو بھی ہم ہی افضل رہینگے۔ جیسا کہ دنیا میں ہم تم سے بہتر رہے۔ ان کی رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (خزائن العرفان)

مومن اور کافر کی موت میں فرق

اس باب میں کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ وارد ہیں صرف حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

حدیث پاک:۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے قبر پر پہنچنے قبل بھی تیار نہ تھی۔ حضور ﷺ بیٹھ گئے۔ ہم آپ کے آس پاس ایسے بیٹھ گئے کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ حضور ﷺ کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے آپ زمین کریدنے لگے۔ پھر سر اٹھایا دویا تین مرتبہ فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو پھر فرمایا۔ کہ بندہ مومن جب دنیا سے روانہ ہو کر آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس پر آسمان سے سفید چہرے والے فرشتے اترتے ہیں۔ گویا ان کے چہرے سورج ہیں جن کے ساتھ جنت کے کفنوں سے کفن اور وہاں کی

خوشبو ہوتی ہے حتیٰ کہ میت کی تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں۔ اے پاک روح اللہ کی بخشش اور رضا کی طرف چل تو وہ نکلتی ہے ایسی بہتی ہوئی جیسے مشک سے قطرہ ملک الموت اسے لے لیتے ہیں جب لیتے ہیں تو فرشتے ان کے ہاتھ میں پل بھر نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اسے لے لیتے ہیں اسکو کفن اور خوشبو میں ڈال دیتے ہیں اس میت سے ایسی نفیس خوشبو نکلتی ہے جیسے روئے زمین پر بہترین مشک سے فرمایا اسے لیکر چڑھتے ہیں تو فرشتوں کی کسی جماعت پر نہیں گزرتے مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہی نفیس خوشبو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے اسکا وہ اعلیٰ نام لیکر جو زمین میں لیا جاتا تھا حتیٰ کہ اسے لیکر دنیاوی آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس کے لیے کھلواتے ہیں تو کھول دیا جاتا ہے اسے ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان پر پہنچانے جاتے ہیں حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ میرے بندے کی کتاب علیین میں لکھو۔ اور اسے زمین کی طرف کر دو کیونکہ میں نے انہیں زمین سے ہی پیدا کیا وہاں ہی لوٹاؤں گا وہاں ہی سے دوبارہ نکالوں گا فرمایا اس کی روح جسم میں واپس کی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ رب تیرا کون وہ کہتا ہے رب میرا اللہ ہے وہ کہتے ہیں دین تیرا کیا وہ کہتا ہے دین میرا اسلام کہتے ہیں یہ صاحب کون ہیں جو تم میں بھیجے گئے وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہیں وہ کہتے ہیں تجھے کیسے معلوم ہوا یہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اسپر ایمان لایا اس کی تصدیق کی۔ تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے۔ اس کے لئے جنت کافرش بچھاؤ جنتی لباس پہناؤ اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو فرمایا تب اس تک جنت کی راحت و خوشبو آتی ہے تاحد نگاہ اس کی قبر میں فراخی کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اسکے پاس ایک خوبصورت اچھے کپڑوں والا اچھی خوشبو والا شخص آتا ہے کہتا ہے اس سے خوش ہو جو تجھے مسرور کرے گی یہ تیرا وہ دن ہے جسکا تجھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ کہتا ہے تو کون ہے تیرا چہرہ بھلائی لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں

بندہ کہتا ہے یارب قیامت قائم کریا رب قیامت قائم کرتا کہ میں اپنے گھریا اور مال میں پہنچوں۔ فرمایا کہ بندہ کافر جب دنیا کے خاتمے اور آخرت کی آمد میں ہوتا ہے تو اسکی طرف آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں۔ اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آتے ہیں اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں اے خبیث جان رب کی ناراضی کی طرف نکل فرمایا کہ جان اسکے جسم میں چھپتی پھرتی ہے وہ اسے ایسے کھنچتے ہیں جیسے گرم سیخ بھیگی اون سے کھینچتی جاتی ہے۔ پھر اسے لے لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے وہ جان ملک الموت کے ہاتھ میں پلک جھپکے تک نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اسے ان ٹاٹوں میں ڈال لیتے ہیں اور اس سے روئے زمین کے بدترین مردار کی سی بدبو نکلتی ہے اسے لیکر چڑھ جاتے ہیں فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث جان ہے وہ اس کے دنیاوی بدترین ناموں سے جس سے موسوم کیا جاتا تھا نام لیکر کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بیٹا یہاں تک کہ اسے لیکر آسمان دنیا تک آتے ہیں۔ کھلوا یا جاتا ہے تو اسکے لیے کھولا نہیں جاتا پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: نہ انکے لئے آسمان کے دروازے کھلیں اور نہ وہ جنت میں جائیں حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کتاب نخلی زمین کے سبب میں لکھو پھر اسکی جان پٹخ دیجاتی ہے پھر حضور ﷺ نے یہ تلاوت کی کہ جس نے اللہ سے شرک کیا گویا وہ آسمان سے گر گیا جسے پرندے اچکتے ہیں یا اسے دور جگہ میں ہوا پھینکتی ہے۔ پھر روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں کہتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا پھر کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے وہ کہتے ہیں ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تب آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے اس کے لئے آگ کا بستر بچھاؤ اور آگ کی طرف دروازہ کھولو تب اس تک دوزخ کی گرمی اور وہاں کی لو آتی ہے اس پر

قبر اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ اسکی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ اس کے پاس ایک بد شکل برے لباس والا بد بودار آدمی آتا ہے کہتا ہے اس کی خبر لے جو تجھے غمگین کرے گی یہی وہ دن ہے جسکا تجھ سے وعدہ تھا مردہ کہتا ہے کہ تو ہے کون کہ تیرا چہرہ شر (ڈر) لاتا ہے وہ کہتا ہے میں تیرے برے عمل ہوں تب یہ کہتا ہے الہی قیامت نہ قائم کر۔ اور ایک روایت میں اس کی مثل ہے اس میں اتنی زیادتی ہے کہ جب مومن کی جان نکلتی ہے تو آسمان وزمین کے درمیان کے سارے فرشتے اس پر دعا کرتے ہیں اور اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں ہر دروازے والے یہی دعا کرتے ہیں کہ اسکی روح ان کی طرف سے چڑھے۔ اور کافر کی جان اسکی رگوں کے ساتھ نکالی جاتی ہے اس پر آسمان زمین کے درمیان والے فرشتے اور آسمان کے سارے فرشتے لعنت کرتے ہیں آسمان کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں ہر دروازے والے یہی دعا کرتے ہیں کہ الہی اس کی روح انکی طرف نہ چڑھے۔ (احمد)

ارواح سے ملاقات: بندہ مومن کی موت کے بعد جب ملائکہ اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اسکی روح سے ملاقات کرنے گذشتہ رو میں آتی ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔

فیاتون بہ ارواح المومنین فہم اشد فرحابہ من احد کم
بفائبہ یقدم علیہ فیسالونہ ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان

فیقولون دعوه فانہ کان فی غم الدنیا۔ الی آخرہ (احمد، نسائی)

ترجمہ: ملائکہ اسے مسلمانوں کی روحوں کے پاس لاتے ہیں مومنین اس کی وجہ سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے تم میں سے کوئی گمشدہ آدمی کے آجانے سے خوش ہوے۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کرتا ہے۔ فلاں کیا کرتا ہے پھر کہتے ہیں۔ اسے چھوڑو یہ دنیا کے غم میں تھا یہ

کہتا ہے کہ وہ مر گیا ہے کیا تمہارے پاس نہیں آیا وہ کہتے ہیں کہ سے ام ہاویہ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ یعنی مومن رو میں اسی جانے والی روح کو گھیر لیتی ہیں اور اپنے زندہ لوگوں کے حالات پوچھتی ہیں پھر بعض رو میں کہتی ہیں کہ سوال جواب ختم کرو اسے آرام کرنے دو یہ ابھی دنیوی تکالیف اور شدت نزع سے چھوٹ کر آیا ہے۔ خیال رہے کہ روحوں کا یہ سوال اشتیاق کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ مومن رو میں اپنے زندوں کے حالات سے خبردار رہتی ہیں ارشاد باری

تعالیٰ ہے۔ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم (علاوہ ازیں) مومن رو میں ہر جمعرات کو گھر آ کر زندوں سے ایصال ثواب کی درخواست کرتی ہیں۔ (مرآة المناجیح) ایک حدیث پاک میں ہے مرنے کے بعد روح کے عالم برزخ میں پہنچتے ہی میت کے عزیزو احباب اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے عزیزوں کے حالات بے تابی سے دریافت کرتے ہیں حتیٰ کہ ملائکہ کو یہ کہہ کر انہیں روکنا پڑتا ہے۔ کہ اسے دم تو لینے دو یہ موت کی شدتوں سے چور چور ہو کر آ رہا ہے۔ (عالم برزخ)

☆ حضرت محمد ابن منکدر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر ابن عبد اللہ کے پاس گیا جبکہ وہ (عالم نزع) وفات پارہے تھے۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو میرا سلام کہنا۔ (ابن ماجہ)

☆ حضرت عبد الرحمان ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب حضرت کعب کو موت آئی۔ تو ان کے پاس ام تبشر بنت ابن معرور آئیں بولیں: اے ابو عبد الرحمان اگر تم فلاں سے ملو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ الی آخرہ (ابن ماجہ)۔

اعتدال کی راہ: آئندہ اوراق میں تحریر کروہ عقائد اور مسائل کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ضرور ہے میں علماء کرام کا ایک اور فی خادم ہوں۔ علماء کرام کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں نے اختلافی مسائل کو ذکر کر کے کسی کو پریشان کرنے کی قطعاً کوئی کوشش نہیں کی۔ اور نہ ہی اپنی کتاب کا اختلافی مسائل تحریر کرنے کی نذر کیا ہے میں نے اس

مقام پر ان عقائد اور مسائل کا ذکر کیا ہے جن پر اجماع امت ہے جن پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے میں نے ان مسائل کو اصلاحی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے دلائل کی روشنی میں تحریر کیا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آپ بھی پڑھ کر اس سے اتفاق کریں گے۔

مومن صالح کی موت سے زیادہ قبور تک کے برزخی

مرامل (اختصار سے)

مومن کا تحفہ :- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے (بیہقی)

حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے بندہ مومن (موت سے) دنیا کی تکلیف اور اذیتوں سے چھوٹ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جاتا ہے (متفق علیہ)

حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اس کے احترام کی بشارت دی جاتی ہے تب اسے اگلے جہان سے کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ (متفق علیہ)

قارئین کرام! موت کے بعد میت کو دفن کرنے سے قبل اور دفن کرنے کے بعد بھی حیات کے اوصاف مثلاً پہچاننا، کلام کرنا، دیکھنا اور سننا وغیرہ جیسے اوصاف مشیت ایزدی سے دین اسلام کی روشنی میں حاصل رہتے ہیں۔

آپ میت کے لیے تحریر کردہ چار اوصاف کے بارے میں مندرجہ بالا تحریر پڑھ کر حیران نہ ہوں۔ اس لیے کہ موجودہ دور کسی کی اندھی تقلید کرنے کا دور نہیں بلکہ دلائل اور حوالہ جات کا دور ہے۔ لہذا میں نے کوئی بات بغیر حوالہ کے تحریر نہیں کی جو کچھ لکھا ہے قرآن پاک اور احادیث رسول ﷺ کی روشنی میں لکھا ہے بزرگان دین کی کتابوں سے لکھا ہے۔ انشاء

اللہ تعالیٰ آپ بھی پڑھ کر اس سے ضرور اتفاق کریں گے اگلے اوراق میں باحوالہ وضاحت ہے

ہاں البتہ طوالت سے بچنے کے لیے حوالہ جات کا استیعاب ممکن نہیں ہر مقام پر مختصر حوالہ جات کا ذکر کرنا کافی سمجھا گیا ہے۔

احادیث مبارکہ :- میت کو غسل دینے سے لیکر زیارۃ قبور تک ان احادیث مبارکہ کا

خصوصی طور پر ذکر جمیل جن سے میت کی پہچان، کلام، میت کا، دیکھنا، سننا وغیر واضح ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میت پہچانتا ہے غسل دینے والے کو اور جو اسے اٹھاتا ہے۔ جو کفن دیتا ہے اور جو اسے قبر میں اتارتا ہے۔ (ابن مندہ۔ مرقاة۔ امام احمد۔ ابی الدنیا۔ طبرانی الحاوی للفتاویٰ)۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہر مردہ اپنے نہلانے والے کو پہچانتا ہے۔ اور اٹھانے والے کو قسمیں دیتا ہے اگر اسے آسائش اور پھولوں اور آرام کے باغ کا مردہ ملا تو قسم دیتا ہے مجھے جلدی لے چل اور آب گرم کی مہمانی اور بھڑکتی آگ میں جانے کی خبر ملتی ہے۔ قسم دیتا ہے مجھے روک رکھ۔ (کتاب الروضۃ)
میت کی پہچان اور کلام کرنا واضح ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب مردہ کو جنازہ پر رکھ کر تین قدم لیکر چلتے ہیں ایک کلام کرتا ہے۔ جسے سب سنتے ہیں۔ جنہیں اللہ چاہے سوا جن وانس کے۔ کہتا ہے۔ اے بھائیو! نعش اٹھانے والو تمہیں دنیا فریب نہ دے جیسے مجھے دیا اور تم سے نہ کھیلے جیسے مجھ سے کھیلی۔ الیٰ آخرہ۔ (ابن ابی الدنیا کتاب القبور)

حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بیشک مردہ جب چار پائی پر رکھا جاتا ہے پکارتا ہے اے گھر والو! اے ہمسایو! جنازہ اٹھانے والو دیکھو دنیا تمہیں دھوکا نہ دے جیسا مجھے دیا۔ (امام احمد کتاب الزہد)

حضرت ابن الدینا حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں ہر مردہ جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کے گھر والوں میں کیا ہو رہا ہے لوگ اسے نہلاتے ہیں کفنتے ہیں اور وہ انہیں دیکھتا ہے۔ (ابن ابی الدینا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

مسلمان کی روح نہیں نکلتی جب تک بشارت نہ دیکھ لے پھر جب نکل چکتی ہے تو ایسی آواز سے جسے انس و جن کے سوا گھر کا ہر چھوٹا بڑا جانور سنتا ہے ندا کرتی ہے مجھے جلد لے چلو اور حسم الراحمین کی طرف پھر جب جنازے پر رکھتے ہیں کہتی ہے کتنی دیر لگا رہے ہو چلنے میں۔ (ابن ابی شیبہ)

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور مرد اُسے اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں۔ اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے۔ (قد موانی) مجھے آگے بڑھاؤ (جلدی لے چلو) اگر بد ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے ہائے خرابی اس کو کہاں لئے جاتے ہو۔ (بخاری)

قارئین کرام! ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں میت کا پہچانا، میت کا کلام کرنا، میت کا دیکھنا حتیٰ کہ میت کا تین قدم چلنے کی گنتی جانا بھی واضح ہیں۔

قبر کا بیان:۔ قبر، میت کو دفن کرنے کی جگہ شرعی نقطہ نگاہ سے قبر زمین میں (شرعی طریقہ کے مطابق) کھودے گئے اس گڑھے کو کہتے ہیں۔ جسمیں میت کی نعش کو دفن کیا جاتا ہے اور اس میں میت کا اکرام ہے اس لیے میت کو غسل اور کفن دینے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ارشاد گرامی کے مطابق اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ثم اماتہ فاقبرہ۔ پارہ ۳۰ ۵۶

ترجمہ: پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا۔

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فقیرہ نہیں فرمایا بلکہ فاقبرہ فرمایا ہے۔ کیونکہ قابر وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے دفن کرے اللہ تعالیٰ جل شانہ تو مقبر ہیں۔ اقبرا المیت اس وقت کہا جاتا ہے جب دوسرے کو دفن کرنے کا حکم کرے۔ (تفسیر کبیر)

علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

ثم اماتہ فاقبرہ۔

ترجمہ: یعنی اس کو صاحب قبر کیا۔

جس سے میت کی نعش کو چھپایا جاتا ہے۔ اس کے اکرام کی خاطر اور اس کو زمین پر نہیں پھینک دیا جاتا۔ کہ جو دیکھے برا محسوس کرے۔ پرندے اور درندے جب اسے پائیں تو اسے نوچ نوچ کر کھائیں جیسا کہ دوسرے حیوانوں سے کرتے ہیں۔ (روح المعانی)

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

ثم اماتہ فاقبرہ۔

ترجمہ: انسان کو (اللہ تعالیٰ نے) اس مخلوق بنایا۔

جسے دفن کیا جاتا ہے۔ اور ان میں سے نہیں بنایا جنہیں یوں پھینک دیا جاتا ہے۔ (فتح الباری)

كان القبر مما اكرم به بنو آدم۔

قبر وہ جگہ ہے جس سے بنی آدم کو عزت بخشی گئی ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں دفن کرنے کی مصلحت کو یوں بیان فرماتے ہیں۔

ترجمہ۔ دفن کرنے میں مصلحت یہ ہے کہ جب بدن کے اجزاء تمام یکجا ہوں گے تو بدن سے روح کا تعلق کامل ہوگا اور سارے بدن سے ہوگا۔ اور استفادہ کرنے والوں کی طرف روح

سہولت سے متوجہ ہوگی کیونکہ بدن کے مقام کے تعیین سے روح کا مکان بھی متعین ہوگا اور اس دنیا سے ملاقات فاتحہ اور تلاوت قرآن کا ثواب بدن کے دفن میں پہنچے گا تو خوب نافع ہو گا۔ اس لیے بدن کو جلانا گویا روح کو بے گھر کر دینا ہے اور دفن کرنا گویا روح کے لیے ایک مسکن بنانا ہے۔ اسی بناء پر ان اولیاء کرام اور صالح مومنین سے نفع اور استفادہ کا سلسلہ جاری ہے جو دفن کئے گئے۔ (تفسیر عزیزی، حیات برزحیہ، حیات الموات فی سماع الاموات)

دفن کرنے میں جلدی کی جائے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ کہ جنازہ کو جلدی (تیز) لے جاؤ۔ اگر وہ نیک ہے۔ تو بھلائی ہے جس کی طرف تم اسے لے جا رہے ہو۔ اور اگر اس کے سوا کچھ اور (بد) ہے تو وہ ایک بری چیز ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ (بخاری، مسلم)

حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ کہ اگر وہ (میت) نیک ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو۔ اور اگر بد ہو تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے۔ ہائے اسے کہاں لے جاتے ہو اسکی آواز انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے۔ اگر انسان سنے تو بے ہوش ہو جائے۔ (بخاری)

قارئین کرام! دفن کرنے میں جلدی اس لئے بھی کی جائے کہ نیک آدمی کو اس لئے کہ اس کے اگلے گھر میں اس کیلئے خیر ہے۔ لہذا وہاں جلدی پہنچاؤ کیونکہ نزع کے وقت اس کو آئندہ کے حال کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب اسے یہاں ٹھہرنا وبال معلوم ہوتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے۔ قدمونی۔ مجھے جلدی لے چلو اگر بد ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے۔ کہ اسے کہاں لے جاتے ہو۔ اگر میت بد ہے تو اس کو بھی جلدی لے جاؤ۔ کہ وہ رحمت الہی سے دور ہے تم سے بھی جلدی دور ہو جائے۔

میت کا یہ کلام یہ گفتگو زبان حال سے نہیں بلکہ زبان قال سے آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسے انسان کے سوا جانور فرشتے وغیرہ سنتے ہیں۔

روح کا اعادہ: منکر و نکیر کے سوالات سے پہلے بدن میں روح کا اعادہ کیا جاتا ہے

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے۔

فتعاد روحہ فی جسدہ فیاتیہ ملکاً فی جلسانہ۔

فرمایا۔ اسکی روح جسم میں واپس کی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں۔ الیٰ اخرہ (احمد)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک میں ہے جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے۔ اور قبر کے دو فرشتے آجاتے ہیں۔ (الفتاویٰ الحدیثیہ)

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ روح صرف سینہ تک لوٹائی جاتی ہے مگر اسکا کوئی ثبوت نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ جسم کے سارے اجزاء میں روح داخل ہوتی ہے۔ (مرآة المناجیح)

علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

ترجمہ۔ پھر خوب سمجھ لو کہ بدن کے ساتھ روح کا اتصال ایک جزو کو چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ مختص نہیں بلکہ یہ اتصال متصل ہے۔ اور تمام اجزائے بدن میں روح پہنچ جاتی ہے۔ خواہ ایک جزو مشرق میں ہو اور ایک مغرب میں۔ (روح المعانی)

علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

حیات قبر تمام مردوں کے لیے ہے۔ جو روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور اسمیں کوئی شک نہیں۔ (شفاء السقام)

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ (کیا ہی خوب لکھتے ہیں)

ان الاحادیث مصرحة باعادة الروح الی البدن عند السؤال۔

(شرح الصدور)

احادیث مبارکہ میں صراحت ہے کہ (منکر و نکیر کے) سوال کے وقت روح کا بدن میں اعادہ کیا جاتا ہے۔

جوتیوں کی آواز سننا: امام بخاری و مسلم و ابوداؤد ترمذی و نسائی اپنے صحاح اور امام احمد مسند ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور پر نور سید العالمین ﷺ فرماتے ہیں۔

واللفظ لسلم ان الميت اذا وضع في قبره انه ليسمع خفق
نعالهم اذا انصرفوا۔

ترجمہ: مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں بیشک وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔

امام احمد و ابوداؤد و سند جید براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی سید عالم ﷺ نے فرمایا۔

ان الميت يسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين۔

ترجمہ: بیشک مردہ جوتیوں کی پھل سنتا ہے جب لوگ اسے پیٹھ دے کر پھرتے ہیں۔

امام بیہقی و طبرانی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی سرور عالم ﷺ فرماتے ہیں۔

ان الميت اذا دفن يسمع خفق نعالهم اذا ولوا عنه منصرفين۔

ترجمہ: بیشک جب مردہ دفن ہوتا ہے اور لوگ واپس آتے ہیں وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ میں حضور ﷺ کے ساتھ

تھے۔ جب اس کے دفن سے فارغ ہوئے اور لوگ پلٹے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اب وہ

تمہاری جوتیوں کی آواز سن رہا ہے۔ (طبرانی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا۔

والذی نفسی بیدہ ان الميت اذا وضع في قبره انه ليسمع

خفق نعالہم حین یولون۔

ترجمہ: قسم اسکی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے کفش پائے مردم کی آواز سنتا ہے جب اسکے پاس سے پلٹتے ہیں۔ (المستدرک۔ بہقی۔ طبرانی)
اس عنوان پر صرف اتنی روایات لکھنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اتنا ضرور عرض کروں گا کہ کتنا راسخ اور ضروری عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور ﷺ نے حلف اٹھا کر فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم۔ جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ جب اس کے پاس سے پلٹتے ہیں۔

منکر و نکیر: منکر و نکیر کے بارے میں بے شمار حدیثیں وارد ہیں۔ اور سب کے راوی قومی ہیں۔ منکر و نکیر فرشتوں کے نام ہیں منکر و نکیر کے معنی اجنبی ہونے کے ہیں کیونکہ یہ فرشتے میت کے لیے ہر طرح سے اجنبی ہوتے ہیں۔

میت نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کو منکر و نکیر کہتے ہیں نہایت ہی ڈراؤنی اور ہیبت ناک انسانی شکل میں میت کے پاس قبر میں سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ قبر کا یہ امتحان بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس امتحان میں صرف قبر (عالم برزخ) کی کامیابی کا انحصار نہیں بلکہ اخروی کامیابی کا انحصار بھی اسی امتحان کی کامیابی میں پنہاں ہے ان سوالات کے جوابات کے لیے حیات علم و فہم اور ادراک کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میت سنتا نہیں کلام کرتا نہیں بات یاد نہیں عقل کامل نہیں تو جواب کیسے دے سکے گا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بارے میں استفسار کرنے سے واضح ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استفسار: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے روایت ہے۔ کہ حضور ﷺ نے قبر کے فرشتوں (منکر و نکیر) کا ذکر فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ۔ کیا ہماری عقلیں (منکر و نکیر کے سوالات

کے وقت) لوٹائی جائیگی۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا ہاں جس طرح آج ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے منہ میں پتھر۔ (الترغیب والترہیب)۔

تشریح۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ الحجر۔ ان کے منہ میں پتھر مطلب یہ ہے کہ جب ہماری عقلیں (منکر نکیر کے سوالات کے وقت) ہمیں آج کی طرح لوٹادی جائیگی تو فکر کی کوئی بات نہیں ہم ان کو مسکت جواب دینگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات اور منکر نکیر سے حیران کن سوال کا تذکرہ آرہا ہے۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت اور قبر پر تلقین کرنا منکر و نکیر کو جوابات دینے کے لیے حصول انس اور رہنمائی کرنے کی ایک کڑی ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت:۔ حضرت عمرو بن

العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نزع میں فرمایا۔ کہ مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا۔ پھر میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اسکا گوشت تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں اور جان لوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوؤں (منکر و نکیر) کو کیا جواب دیتا ہوں۔ (مسلم) انس تب حاصل ہوگا جب باہر نظر ہوگی۔

قبر پر تلقین:۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ دفن کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ کہو اے فلاں ابن فلاں اپنا وہ کلمہ یاد کر جسے تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ تیرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین اسلام ہے تیرے نبی محمد ﷺ ہیں۔ (اشعۃ اللمعات)

علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث پاک یوں منقول ہے۔

حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جائے جب اس پر مٹی ڈال چکو تو کوئی شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے

اے فلاں بن فلاں وہ کلام سن لیگا مگر جواب نہ دیگا پھر کہے اے فلاں بن فلاں اب وہ کہیگا۔ اللہ تجھ پر رحم کرے ہماری رہنمائی کر لیکن تم نہیں سنتے۔ (رواہ الطبرانی)

امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو احناف کے بہت بڑے امام ہیں فرماتے ہیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد تلقین کرنا بہتر ہے۔ اور شوافع نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ (طحاوی) شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

دفن کے بعد تلقین دعا کے علاوہ ہے اور وہ اکثر شوافع کے نزدیک مستحب ہے۔ اور ہمارے بعض اصحاب سے بھی منقول ہے۔ (لمعات)

احناف سے یہی مسلک علامہ شامی امام طحاوی، ملا علی قاری، امام ابن ہمام اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔

واضح دلیل: حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک کی روشنی میں میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد تلقین کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ میت تلقین کرنے والے کی آواز کو سنتا ہے اور اسکا جواب بھی دیتا ہے۔ (جیسا کہ خط کشیدہ عبارت سے واضح ہے)

ثابت قدمی کے لیے دعا: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ دیر ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پھر اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اب اس سے (منکر و نکیر کے) سوالات ہو رہے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے سیاہ فام زرد آنکھوں والے آتے ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں الیٰ آخرہ (منکر و نکیر کے سوالات کا ذکر آگے آ رہا ہے)۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے

فرمایا کہ آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی وہاں سے لوٹتے ہیں۔ اور وہ انکے پاؤں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آجاتے ہیں۔ پھر اسے بٹھاتے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں۔ الی آخرہ (سوالات کا ذکر آگے آرہا ہے)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ (قبر میں میت کے پاس) دو فرشتے آتے ہیں پھر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ الی آخرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث اسراء میں مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں نے پوچھا: اے جبریل! یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ منکر و نکیر ہیں جو آدمی کے پاس آتے ہیں جب اسے مرنے کے بعد دفن کر دیتے ہیں اور وہاں اکیلا ہوتا ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں میں نے کہا: اے جبرائیل علیہ السلام میرے لیے ان دونوں کی تعریف بیان کر:

جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: جی ہاں! میں بیان کرتا ہوں بغیر اس کے کہ ان کے طول و عرض کو ذکر کروں چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں کی انتہائی ہولناک تصویر کشی کی اور بتایا کہ ان کی آوازوں میں بجلی کی سی کڑک ہے اور ان کی نگاہوں میں خیرہ کر دینے والی بجلی کی سی چمک ہے اور ان کے ناخن جو لہے کے کانٹے دار کوچ کی مانند ہیں ان کے مونہوں سے اور نتھنوں اور کانوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اپنے بالوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اور اپنے ناخنوں سے زمین کو کھودتے ہوئے (قبر میں) آتے ہیں۔ الی آخرہ (التذکرۃ)

منکر و نکیر کے سوالات و جوابات: حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور

ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے۔ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر کہتے ہیں۔ تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے۔ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں۔ یہ کون صاحب ہیں۔ جو تم میں بھیجے گئے۔ تو وہ

کہتا ہے وہ رسول اللہ ﷺ ہیں فرشتے کہتے ہیں تجھے یہ کیسے معلوم ہوا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا۔ اس پر ایمان لایا اور اسکو سچا جانا۔ الی آخرہ مشکوٰۃ۔ ابن ماجہ۔ ترمذی

شان رسالت:- منکر نکیر کا تیسرا سوال حضور ﷺ کی ذات بابرکات کے بارے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب جناب محمد ﷺ کو یہ خصوصی اعزاز عطا فرمایا ہے کہ قبر میں آپ ﷺ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔

علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

ومنها ان الميت یسئل عنہ علیہ السلام فی قبرہ۔ مواہب اللدنیہ صفحہ ۲۰۵
فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ کے خصائص سے یہ بھی ہے کہ قبر میں میت سے آپ ﷺ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔

حیران کن سوال:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا ابا جان آپ پر کیا گذری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میرے پاس دو فرشتے (منکر نکیر) آئے مجھے کہا تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے میں نے کہا اللہ میرا رب ہے اور محمد ﷺ میرے نبی ہیں (حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حیران فرشتوں سے پوچھا) بتاؤ تمہارا رب کون ہے (دونوں حیران ہو گئے اور حیرانی سے) ایک نے دوسرے کو دیکھا اور کہا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ وہ لوٹ گئے۔ (الحاوی للفتاویٰ صفحہ ۳۴۱)

مومن صالح اور منکر نکیر:- حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے ہیں حضور ﷺ جن کے بارے میں فرماتے ہیں۔

لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔

اگر میرے بعد نبی ہوتا۔ (نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا) تو عمر بن الخطاب نبی ہوتے۔ (مشکوٰۃ) حضرت

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بہت بڑی شان ہے حضور ﷺ کے ادنیٰ غلام مومن صالح کو منکر نکیر سے کوئی خوف و ہراس نہیں ہوگا۔

حدیث پاک: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مردہ (مومن صالح) قبر میں پہنچتا ہے پھر اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے (نکیرین کے سوال کے وقت اس کی یہ حالت ہوتی ہے) غیر فزع ولا مشغوب۔ یہ گھبرایا ہوا نہ پریشان پھر اس سے کہا جاتا ہے تو کس دین میں تھا۔ الیٰ آخرہ (مشکوٰۃ)

بندہ مومن منکر و نکیر سے یوں مخاطب ہوتا ہے (دعونی اصلی) مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

کہ جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے اور (منکر و نکیر سے) کہتا ہے مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ (مشکوٰۃ)

بے مثل بے مثال انعام اکرام: بندہ مومن جس کے انعام و اکرام کا سلسلہ موت

سے شروع ہو چکا تھا جب مومن صالح منکر و نکیر کے سوالات کے جواب دیتا ہے۔

کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور (یہ برگزیدہ ہستی) رسول اللہ ﷺ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے مثل اور بے مثال اعزاز اور انعام و اکرام کا سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک میں ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے۔

ان صدق عبدی۔

میرا بندہ سچا ہے۔

یعنی میرا بندہ منکر و نکیر کے سوالات جوابات دینے میں سچا ہے۔ بندہ مومن کے لیے یہ بہت ہی بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا عبد (بندہ) فرماتے ہیں۔

آئے اس کی شان حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہ رسول ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم کیا کہ تجھ پر قرآن پڑھوں (تم کو قرآن پاک پڑھ کر سناؤں) اس (حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں پروردگار کے ہاں ذکر کیا گیا ہوں (حضور ﷺ نے) فرمایا ہاں

حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے (یعنی اس خوشی میں رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیکر آپ ﷺ کو قرآن پاک سنانے کو کہا ہے)۔ (متفق علیہ)

دیگر اعزاز: حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے۔

فافر شوہ من الجنة۔

ترجمہ: اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ۔

والبسوہ من الجنة۔

ترجمہ: اور اسے جنت کا لباس پہناؤ۔

وافتحوا الہ بابالی الجنة۔

ترجمہ: اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔

پس اس کیلئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس تک جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک میں ہے۔

ویفسح لہ فیہا مدبصرہ۔

ترجمہ: اور تا حد نظر قبر میں فراخی کر دی جاتی ہے۔

ثم ينور له في قبره۔

ترجمہ: پھر اس کے لیے قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔

ثم يقال له نم۔

ترجمہ: پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا۔

قارئین کرام! حدیث پاک کی روشنی میں قبر میں میت کیلئے جنتی اشیاء کا استعمال شروع کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً میت کے لیے جنت سے آمدہ بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ اسے جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس تک جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے۔ اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ جنتی اشیاء کا مختصر تعارف ہو جائے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ کہ مومن صالح کو قبر سے ہی کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کی ہے۔ جسکو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ کسی کان نے سنا نہیں اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گذرا ہے۔ (متفق علیہ) سبحان اللہ پھر ان کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ (متفق علیہ)

اور ایک روایت میں ہے۔ کہ کمان کی مقدار جنت کی جگہ اس چیز سے بہتر ہے۔ جس پر سورج طلوع و غروب ہوتا ہے۔ (متفق علیہ)

جنتی نعمتوں کے لیے فنا نہیں: جنتی نعمتوں جنتی پھلوں کے لیے فنا نہیں جنتی کی

جوانی کے لیے ختم ہونا نہیں جنتی لباس کے لیے بوسیدہ ہونا نہیں وغیرہ وغیرہ جن کا احاطہ کرنا یہاں ممکن نہیں۔

کہ ان (جنتیوں) کی جوانی فنا نہ ہوگی ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہونگے۔ (ترمذی، دارمی، مسلم شریف) میں ہے۔ جنتیوں سے کہا جائیگا تم زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں۔

جنتی لباس کی عمدگی: واقعہ یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں نہایت ہی عمدہ اور بہترین قبالبطور تحفہ بھیجی صحابہ کرام نے اس کی عمدگی اور نرمی کو دیکھ کر بڑا تعجب کیا (آخر بادشاہ کی تحفہ بھیجی ہوئی قبالتھی) حضور ﷺ نے فرمایا۔

اتعجبون من لین هذا لمنا ديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها والين۔ (بخاری و مسلم)

کیا تم اس قبا کی نرمی کو دیکھ کر تعجب کرتے ہو البتہ بہشت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رومال اس سے زیادہ عمدہ اور نرم تر ہیں۔ (متفق علیہ)

کافر کی حالت: حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے (کافر سے منکر و نکیر سوال کرتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا) تو آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے پس اس کے لیے آگ کا پھوٹنا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو (چنانچہ) اس کی لو اور گرمی آتی ہے۔ الی آخرہ (احمد۔ ابوداؤد)

قبر کا ثواب و عذاب: قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں قبر کا ثواب و عذاب بالاجماع حق ہے۔ اور ضروریات دین سے ہے۔

(۱) قرآن کریم میں ہے۔ النار يعرضون عليها غدو وعشيا۔ ۴۰/۴۶ آگ جس پر (فرعونی) صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

- ترجمہ۔ یہ آیت کریمہ قبر میں عذاب کے بارے میں اہل سنت کے استدلال کی بہت بڑی دلیل ہے۔ (ابن کثیر، حیات برزخیہ)

(۲) مما خطیبتہم اغرقوا فادخلو ناراً۔ ۷۱/۲۵

اپنی کی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کئے گئے۔

قبر میں عذاب کے بارے میں یہ دونوں آیات بہت بڑی دلیل ہیں۔ متواتر احادیث مبارکہ کی رو سے عذاب و ثواب قبر کا عقیدہ ضروریات دین سے ہے اور عذاب قبر بالا جماع حق ہے۔

احادیث مبارکہ :- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک

یہودی عورت ان کی خدمت میں آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا۔ اور آپ سے عرض کیا اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور ﷺ سے عذاب قبر کے متعلق پوچھا آپ ﷺ نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی نہ دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے کوئی نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے رب کی پناہ نہ مانگی ہو۔ (مسلم و بخاری)

حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نماز ادا کرنے کے لیے نکلے لوگوں کو دیکھا کہ ہنس رہے ہیں فرمایا اگر تم لذتوں کے کاٹنے والی موت کا زیادہ ذکر کرو وہ تم کو اس چیز سے باز رکھے جسکو میں دیکھ رہا ہوں لذتوں کو کاٹنے والی موت کا زیادہ ذکر کرو قبر پر کوئی دن نہیں آتا مگر وہ بولتی ہے کہتی ہے میں غربت کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں میں خاک کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں جس وقت مومن بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے قبر اسکو خوش آمدید کہتی ہے اور کہتی ہے تو میری طرف ان سب لوگوں سے بڑھ کر پیارا تھا جو میری پشت پر چلتے ہیں جبکہ آج میں تم پر حاکم بنائی گئی ہوں اور تو میری طرف مجبور کر دیا گیا ہے تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیسا نیک سلوک کرتی ہوں قبر حدنگاہ تک اس کے لیے فراخ ہو جاتی ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے جسوقت ایک فاجر

یا کافر آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے قبر اسے کہتی ہے نہ آیا تو فراخ مکان میں اور نہ اپنی جگہ میں خبردار میرے نزدیک تو ان سب لوگوں سے مبغوض تھا جو میری پشت پر چلتے تھے جبکہ آج میں تجھ پر حاکم بنا دی گئی ہوں یہ کہہ کر وہ مل جاتی ہے یہاں تک کہ اسکی پسلیاں ایک دوسرے میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی ﷺ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور بعض انگلیاں بعض میں داخل کیں۔ آپ نے فرمایا اور ستر اڑو ہے اس کے لیے مقرر کر دیئے جاتے ہیں اگر ایک سانپ زمین میں پھونک مار دے اس میں کچھ نہ اُگے وہ اسکو نوچتے اور کاٹتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسکو حساب تک پہنچایا جائیگا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یادوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ (ترمذی)

درمیان میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قبر کا ثواب و عذاب روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ ”قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یادوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔“

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے کہ میت اٹھانے والوں کو قسمیں دیتا ہے۔ اگر اسے آسائش اور پھولوں اور آرام کے باغ کا مژدہ ملا ہو تو قسم دیتا ہے۔ مجھے جلدی لے چلو اور اگر آب گرم کی مہمانی اور بھڑکتی آگ میں جانے کی خبر ملتی ہے قسم دیتا ہے مجھے روک رکھ۔ (کتاب الروضہ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آپ نے پڑھا کہ جب جنازہ کو رکھا جاتا ہے اور مرد اسے اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے (قدموانی) مجھے آگے بڑھاؤ (جلدی لے چلو) اگر بد ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے خرابی اس کو کہاں لئے جاتے ہو۔ (بخاری)

مومن صالح کو تنعیم و تکریم کا سلسلہ نظر آتا ہے تو کہتا ہے جلدی لے چلو اگر عالم برزخ میں قبر میں تنعیم و تکریم کا سلسلہ صرف روح کے لیے ہوتا بدن میں اس کی شرکت نہ ہوتی۔ تو بدن

کیسے کہتا کہ مجھے جلدی لے چلو اسی طرح اگر میت بد (کافر و مشرک) ہوتا ہے تو کہتا ہے
-ہائے خرابی اس کو کہاں لئے جاتے ہو۔

اگر بد آدمی کی تعذیب کا سلسلہ صرف روح کے لیے ہوتا۔ بدن کے لیے نہ ہوتا تو بدن کیسے
کہتا ہائے خرابی اس کو کہاں لئے جاتے ہو۔ پھر یہ کہ جب کافر پر اس کی قبر تنگ کی جاتی ہے
اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ روح کی پسلیاں تو نہیں ہوتیں۔ پسلیاں تو جسم کی ہوتی
ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک میں ہے کافر
سے منکر و نکیر سوال کرتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں
جانتا۔ تو آسمان سے پکارنے والا کہتا ہے۔ یہ جھوٹا ہے پس اس کے لیے آگ سے اس کا بچھونا
بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دو اس کی لو گرمی آتی ہے
- حضور ﷺ نے فرمایا۔ اسکی قبر اسپر تنگ کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی پسلیاں مختلف ہو
جاتی ہیں۔ پھر ایک اندھا بہرہ فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا
ہے اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی مٹی بن جائے۔

وہ اس کو گرز سے مارتا ہے۔ کہ جن وانس کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان جو ہے۔ اسکی
آواز کونستا ہے۔ وہ مٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں روح لوٹادی جاتی ہے۔ (احمد، ابوداؤد)

قابل توجہ :- حدیث پاک میں ہے۔

(1) حتی کہ اس کی پسلیاں مختلف ہو جاتی ہیں۔ پسلیاں بدن کی ہوتی ہیں روح کی نہیں ہوتیں۔
(2) اندھا بہرہ فرشتہ اسکو گرز سے مارتا ہے کہ جن وانس کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان
جو ہے۔ اس کی آواز کونستا ہے۔ وہ مٹی (خاک) ہو جاتا ہے۔ جسم خاکی ہے تو خاک ہو
جاتا ہے روح تو خاکی نہیں۔

(3) حدیث پاک سے واضح ہے کہ جب بدن گرز لگنے سے خاک ہو جاتا ہے تو پھر اس میں
روح لوٹادی جاتی ہے کیا اس سے یہ واضح نہیں کہ عذاب قبر روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے

اگر یہ عذاب صرف روح کو ہوتا تو اسے بدن میں لوٹانے کی کیا ضرورت تھی۔

☆ - تفسیر مظہری میں ہے امت برحق کا اجماعی عقیدہ ہے کہ عذاب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔

☆ - علامہ سیوطی، رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ترجمہ قبروں میں روح اور جسم عذاب میں شریک ہیں۔

☆ - علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ترجمہ عذاب قبر اور قبر کی راحتیں جسم اور روح دونوں کے لیے ہیں۔ (شفاء السقام)

قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی لکھتے ہیں۔

تفسیر مظہری کے مصنف جنہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۳۹ھ ۱۸۲۴ء) نے بیہقی وقت کا لقب دیا تھا یعنی حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۶۵ھ ۱۸۱۰ء) نے مختلف احادیث کو تطبیق دیتے ہوئے جمہور کے موقف کی یوں ترجمانی کی ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ ان میں مطابقت اس طرح ہے کہ ارواح مومنین کی رہائش گاہ علیین یا ساتوں آسمان یا ان کے مانند کوئی جگہ ہے جیسا کہ مذکور ہوا اور کفار کی ارواح کا ٹھکانہ سجن ہے۔ اس کے باوجود ہر ایک روح کا اس کے متعلقہ جسم سے قبر وغیرہ میں اتصال و تعلق ہوتا ہے اور اس تعلق کی حقیقت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اسی اتصال و تعلق کی وجہ سے تو یہ درست ہوا کہ انسان پر جو جسم اور روح کے مجموعے سے مرکب ہے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے خواہ وہ جنت ہو یا دوزخ اور وہ راحت و تکلیف محسوس کرتا ہے زائر کا سلام سنتا اور منکر نکیر کو جواب دیتا ہے اور اسی طرح وہ تمام چیزیں واقع ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔

مردوں کا سننا قرآن پاک کی روشنی میں

واذ قال ابراهيم رب ارنى كيف تحى الموتى سے واعلم ان

الله عزيز حكيم ۲/۲۶۰

ترجمہ: اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اے رب میرے دکھا دے تو کیونکر مردے جلائیگا۔ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آجائے فرمایا تو اچھا چار پرندے لیکر اپنے ساتھ ہلا لے۔ پھر ان کا ایک ایک جز (ٹکڑا) پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئینگے پاؤں سے دوڑتے ہوئے اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔

سید محمد نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے لئے مور۔ مرغ۔ کبوتر اور کوا نہیں بجکم الہی سے ذبح کیا ان کے پراکھاڑے اور قیمہ کر کے انکے اجزاء باہم خلط کر دئے اور اس مجموعے کے کئی حصے کئے ایک ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھا اور سر سب کے اپنے پاس محفوظ رکھے پھر فرمایا چلے آؤ حکم الہی سے چنانچہ یہ فرماتے ہی وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے سروں سے ملکر بعینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔ (سبحان اللہ)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر جزو میں حیات پیدا کی۔ (حضرت ابراہیم علیہ السلام کی) آواز کی سمجھ پیدا کی۔ اور (حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف) دوڑ کر آنے کی قدرت پیدا فرمائی۔ تفسیر کبیر

حضرت صالح علیہ السلام کا مردوں سے خطاب: قرآن کریم میں ہے۔

فتول عنہم و قال یقوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی و نصحت

لکم و لکن لا تحبون النصحین۔ ۷/۷۹

ترجمہ: تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچادی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کو پسند کرنے والے نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے بعد یہ خطاب فرمایا۔

حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کے مردوں سے خطاب: قرآن کریم میں ہے۔

فتولی عنہم و قال یقوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی و نصحت

لکم فکیف انسی علی قوم کفرین۔ ۷/۹۳

ترجمہ: تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کے لیے نصیحت کی تو کیونکر غم کروں کافروں کا۔ یہ خطاب آپ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد فرمایا جب ان پر عذاب آیا۔

مومن صالح کو بشارت: قرآن کریم میں ہے۔

لہم البشرا فی الحیوۃ الدنیا و فی الاخرۃ۔ ۱۰/۶۴

ترجمہ: انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔

حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جو ملائکہ موت کے وقت سناتے ہیں اور آخرت کی بشارت وہ ہے جو مومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ (خزائن العرفان)

مردوں کا سننا احادیث پاک کی روشنی میں

حدیث پاک:- حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب آپ ﷺ (مقام بدر سے) چلے آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ساتھ تھے یہاں تک آپ ﷺ کنویں کے کنارے پر کھڑے ہوئے۔ (جس میں قریش کے سرداروں کو ڈالا گیا تھا)۔ آپ ﷺ ان کا اور ان کے باپوں کا نام لیکر انکو بلانے لگے۔

اے فلاں بن فلاں اے فلاں بن فلاں تم کو یہ بات خوش لگتی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کر لیتے ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا۔ ہم نے حق دیکھ لیا پس کیا تم نے جو وعدہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا تھا پالیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ ایسے اجساد کے ساتھ کلام کر رہے ہیں جن میں روح نہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد ﷺ کی جان ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم ان سے بڑھ کر سننے والے نہیں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ تم ان سے بڑھ کر نہیں سن رہے لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ (متفق علیہ)

قرآن کریم اور حدیث رسول ﷺ کی روشنی میں ثابت ہوا۔ کہ مردے سنتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ چاہ بدر پر تشریف لے گئے جن میں کفار کی لاشیں پڑی تھیں پھر فرمایا تم نے پایا جو تمہارے رب نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا یعنی عذاب کسی نے عرض کی حضور مردوں کو پکارتے ہیں ارشاد فرمایا تم کچھ ان سے زیادہ سننے والے نہیں پر وہ جواب نہیں دیتے۔ (بخاری)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

ان رسول اللہ ﷺ کان یرینا مصارع اہل بدر (فساق

الحدیث الی ان قال) فانطلق رسول ﷺ حتی اتی الیہم

فقال يا فلان بن فلان و يا فلان بن فلان هل وجدتم ما
 عدكم الله ورسوله حقا فاني قد وجدت ما وعدني الله
 حقا قال عمر يا رسول الله كيف تكلم اجساداً لا روح فيها
 قال ما انتم باسمع لما اقول منهم غير انهم لا يستطيعون ان
 يردوا على شيئا۔ (مسلم شريف)

ترجمہ: یعنی رسول ﷺ ہمیں کفار بدر کی قتل گاہیں دکھاتے تھے کہ یہاں فلاں کافر قتل ہوگا اور
 یہاں فلاں جہاں جہاں حضور نے بتایا تھا وہیں وہیں انکی لاشیں گریں پھر بحکم حضور وہ جینے
 ایک کوئیں میں بھر دیئے گئے سید عالم ﷺ وہاں تشریف لے گئے اور نام بنام ان کفار لیام کو
 ان کا اور ان کے باپ کا نام لیکر پکارا اور فرمایا تم نے بھی پایا جو سچا وعدہ اللہ رسول نے تمہیں
 دیا تھا کہ میں نے پالیا جو حق وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول ﷺ حضور ان جسموں سے کیسے کلام کرتے ہیں جن کو
 روحمیں نہیں فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں اسے کچھ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے مگر انہیں یہ طاقت نہیں
 کہ مجھے لوٹ کر جواب دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مندرجہ بالا
 روایت میں ہے کہ حضور ﷺ (باعلام اللہ تعالیٰ) ہمیں کفار بدر کی قتل گاہیں دکھاتے تھے
 کہ یہاں فلاں کافر قتل ہوگا اور یہاں فلاں جہاں جہاں حضور ﷺ نے بتایا تھا وہیں وہیں
 ان کی لاشیں گریں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ رات کے
 وقت (میت کو دفن کرنے کے لیے) قبر میں تشریف لے گئے۔ تو آپ کے لیے چراغ جلایا
 گیا۔ حضور ﷺ نے میت کو قبلہ کی طرف سے لیا اور فرمایا

وقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَكَ اللهُ ان كنت لا واهاتلاء للقرآن - ترمذی)
 اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے تم بہت زاری کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے
 آپ ﷺ کے اس خطاب کرنے سے واضح ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔

حضور ﷺ کا ام مَحْجَن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے خطاب: حضرت ابو ہریرہ
 رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی
 - یا راوی کہتے ہیں کہ ایک جوان مرد تھا جو جھاڑو دیا کرتا تھا رسول کریم ﷺ نے اسے غائب
 پایا۔ تو اس عورت یا مرد کے بارے میں دریافت فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ مر گئی ہے۔ یا
 مر گیا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کہتے ہیں کہ
 لوگوں نے اس کی موت کو کوئی اہمیت نہیں دی (حضور ﷺ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا
) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اچھا مجھے اسکی قبر بتا دو آپ ﷺ کو قبر بتائی گئی۔ آپ ﷺ نے اسکی
 قبر پر نماز پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ یہ قبریں اپنے مردوں کے لیے تاریکیوں سے بھری ہوئی ہوتی
 ہیں ان قبروں پر میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں روشن کر دیتا ہے۔ (متفق علیہ)
 دوسری روایت جو ابن مرزوق سے ہے اس میں عورت کا نام ام مَحْجَن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نقل کیا
 گیا ہے۔

ام مَحْجَن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے حضور ﷺ کا سوال اور قبر سے اسکا جواب: ام
 مَحْجَن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ ﷺ اس سے یوں مخاطب
 ہوئے۔

ثم قال ای العمل و جدت افضل قالو یا رسول الله اتسمع
 فقال ما انتم باسم منها فذکرانها اجابته تقم المسجد۔

(الترغیب والترہیب، شرح الصدور)

حضور ﷺ نے ام مہجن سے سوال کیا تم نے کون سا عمل افضل پایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ آپ ﷺ کی آواز سن رہی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم اس سے زیادہ نہیں سنتے۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ جواب دے رہی ہے۔ کہ مسجد میں جھاڑو دینے کا افضل عمل پایا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوان سے خطاب:۔ ابن

عسا کرنے ایک حدیث طویل روایت کی جس کا حاصل یہ ہے کہ عہد عمر فاروقی میں ایک جوان عابد تھا۔ امیر المومنین اس سے بہت خوش تھے دن بھر مسجد میں رہتا بعد عشاء باپ کے پاس جاتا راہ میں ایک عورت کا مکان تھا اس پر عاشق ہو گئی۔ وہ ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی۔ جوان نظر نہ فرماتا ایک شب قدم نے لغزش کی ساتھ ہو لیا دروازے تک گیا جب اندر جانا چاہا خدا یاد آیا اور بیساختہ یہ آہ کریمہ زبان سے نکلی۔

ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطن تذکروا فاذا هم مبصرون۔

ترجمہ: ڈروالوں کو جب کوئی جھپٹ شیطان کی پہنچتی ہے خدا کو یاد کرتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

آیت پڑھتے ہی غش کھا کر گرا عورت نے اپنی کنیز کیساتھ اٹھا کر اسکے دروازے پر ڈال دیا باپ منتظر تھا۔ آنے میں دیر ہوئی دیکھنے لگا دروازے پر بیہوش پڑا پایا گھر والوں کو بلا کر اندر اٹھوایا رات گئے ہوش آیا۔ باپ نے حال پوچھا کہا خیر ہے۔ کہا بتا دے نا چار قصہ کہا۔ باپ بولا جان پدروہ آیت کونسی ہے جوان نے پھر پڑھی پڑھتے ہی غش آیا۔ جنبش دی مردہ پایا رات ہی کو نہلا کفنا کر دفن کر دیا۔ صبح کو امیر المومنین نے خبر پائی باپ سے تعزیت کی اور خبر نہ دینے کی شکایت فرمائی عرض کی یا امیر المومنین رات تھی۔ پھر امیر المومنین ہمراہیوں کو لیکر قبر پر تشریف لے گئے۔ آگے حدیث پاک یوں ہے۔

فقال عمر يا فلان ولمن خاف مقام ربه جتن فاجابه الفتى من داخل القبر يا عمر قد اعطانيها ربي في الجنة مرتين۔ (ابن عساكر شرح الصدور) ترجمہ :- یعنی امیر المؤمنین نے جوان کا نام لیکر فرمایا۔ اے فلاں جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر کرے اس کے لیے دو باغ ہیں جو ان نے قبر میں سے آواز دیا اے عمر مجھے میرے رب نے یہ دولت عظمیٰ جنت میں دوبار عطا فرمائی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل :- (صاحب قبر و پکھتے ہیں) حضرت

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس مکان جنت آستان میں جہاں حضور ﷺ کا مزار پاک ہے یونہی بلا حجاب چلی جاتی اور جی میں کہتی وہاں کون ہے یہی میرے شوہر یا میرے باپ ﷺ علی زد چھانٹ لیسھاٹم علیہا وبارک وسلم جب سے عمر دفن ہوئے خدا کی قسم میں بے شرم یا بدن چھپائے نہ گئی عمر سے شرم کے باعث۔ (مستدرک۔ مشکوٰۃ) اگر ار باپ مزارات کو کچھ نظر نہیں آتا تو اس شرم کے کیا معنی تھے اور دفن فاروق سے پہلے اس لفظ کا کیا فضا تھا کہ مکان میں میرے شوہر ﷺ کے سوا میرے باپ ہی تو ہیں غیر کون ہے۔

اور اسی طرح ائمہ کرام نے زیارت قبور کے آداب میں جو کچھ لکھا ہے اس سے بھی اصحاب قبور کا زائرین کو دیکھنا واضح ہے۔

علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے۔

من اداب الزیارة ما قالوا من انه یاتی الزائر من قبل رجلی

المتوفی لا من قبل راسه لانه اتعب لبصر الميت بخلاف

الاول لانه یکون مقابل بصره۔ (حاشیہ شرح تنویر)

ترجمہ: زیارت قبور کے ادب سے ایک بات یہ ہے جو علماء نے فرمائی کہ زیارت کو قبر کے

پائنتی سے جائے نہ سرہانے سے کہ اس میں میت کی نگاہ کو مشقت ہوگی (یعنی سر اٹھا کر دیکھنا پڑے گا) اور پائنتی سے جائے گا تو اس کی نظر کے خاص سامنے ہوگا۔

ملا علی القاری نے لکھا ہے۔ (شرح لباب المناسک)

ترجمہ: زیارت قبور کے آداب میں فقہاء نے یہ لکھا ہے۔ کہ زائر میت کے پاؤں کی طرف سے آئے اور سر کی طرف سے نہ آئے۔ کیونکہ سر کی طرف سے آنا میت کی نگاہ کے لیے باعث تکلیف ہے۔

علامہ ابن الہمام نے بھی یوں ہی لکھا ہے۔

الاولیٰ ان یاتی الزائر من قبل رجل المتوفی لا من قبل راسه
فانه اتعب لبصر المیت۔

ترجمہ: اولیٰ یہ ہے۔ کہ زیارت کرنے والا میت کے پاؤں کی طرف سے آئے۔ نہ کہ اس کے سر کی طرف۔ کیونکہ سر کی طرف سے آنا میت کی نگاہ کے لیے زیادہ مشقت کا باعث ہے۔ امام ابن الحاج مکی لکھتے ہیں۔

کفی فی هذا بیانا قوله علیه الضلوة والسلام المومن ينظر
بنورا لله انتھی و نور الله لا یحجبه شیء هذا فی حق الاحیاء

من المومنین فكیف من كان منهم فی الدار الاخرة۔ (مدخل)

ترجمہ: اس امر کے ثبوت میں کہ اہل قبور کو احوال احیاء پر علم و شعور ہے سید عالم ﷺ کا یہ فرمانا بس ہے کہ مسلمان خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور خدا کے نور کو کوئی چیز پردہ نہیں ہوتی جب زندگی دنیا کا یہ حال ہے تو ان کا کیا پوچھنا جو آخرت کے گھر (یا برزخ میں ہیں)۔

قرآن پاک کی تلاوت:- حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے (ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے) قبر پر خیمہ لگایا اور ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ اس میں ایک شخص (قرآن پاک کی سورۃ) تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتا ہے۔ جب اس نے پوری کر لی تو خیمہ لگانے والا حضور ﷺ کے پاس آیا۔ اس نے آپ ﷺ کو خبر دی آپ ﷺ نے فرمایا منع کرنے والی ہے۔ اور نجات دینے والی ہے اللہ کے عذاب سے۔ (ترمذی)

علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں۔

فردوس دیلمی میں ہے۔ کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔

جو شخص قرآن شریف حفظ کرتا ہے اور ختم کرنے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اسکی قبر میں فرشتہ مقرر کرتا ہے۔ کہ پورا قرآن شریف اس کو حفظ کرائے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن ہو کر اپنی قبر سے اٹھے گا۔ (شرح الصدور)

قارئین کرام! علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بزرگ ہستی ہیں جنکو بیداری کے عالم میں کچھ اور پرستار حضور ﷺ کی زیارت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور میں قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کے مزید واقعات تحریر کئے ہیں جو شخص پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ (مولف)

حیث کا کلام:۔ روایت ہے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم چار بھائی تھے ایک بھائی جسکا نام ربیع تھا ہم سب سے زیادہ نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا تھا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا میں دوڑا ہوا آیا دیکھا کہ اس کی لاش چادر سے چھپائی ہے میں اپنے بھائی کے سرہانے بیٹھ گیا اور سبحان اللہ اور ان اللہ پڑھنے لگانا گاہ ربیع نے چادر سے منہ کھول کر کہا السلام علیکم ہم نے کہا وعلیکم السلام اور پوچھا کہ تم نے مرنے کے بعد سلام کیا کہا ہاں میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور اس کو راضی اور خوش پایا اور مجھ پر بہت رحمت اور مہربانی کی

اور مجھ کو سبز لباس جنت کے ریشمی کپڑوں کا پہنایا تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ کہ ابوالقاسم رضی اللہ عنہ مجھ پر نماز جنازہ پڑھنے کے منتظر ہیں تم لوگ جلد میری تجھیز و تکفین کرو اور دیر مت کرو اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا پھر ربیعہ نے روایت کیا کہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ میری امت کا ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرے گا روایت کیا اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی دلائل النبوت میں اور کہا اس کی اسناد صحیح ہے اور اسکی صحت میں شک نہیں ہے۔

روایت ہے ابان بن ابی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم لوگ مورق عجبی کے پاس وفات کے وقت حاضر ہوئے جب روح قبض ہو گئی اور چادر اڑھا دی گئی تو ہم نے دیکھا کہ ان کے سر ہانے سے ایک نور بلند ہوا اور مکان کی چھت سے آسمان تک گیا اور پھر دیکھا کہ ان کے پیر کی طرف سے ایک نور پہلے نور کے مثل بلند ہوا پھر دیکھا کہ ان کے سینہ سے ایک نور اسی طرح سے بلند ہوا کچھ دیر تک چپ رہے پھر میت نے چادر سر سے اٹھایا اور کہا تم لوگوں نے کچھ دیکھا ہم لوگوں نے کہا دیکھا اور جو کچھ دیکھا تھا اس سے بیان کیا اس نے جواب دیا یہ سورہ سجدہ کا نور ہے جسکو ہمیشہ رات کو پڑھا کرتا تھا جو نور سر کی طرف سے بلند ہوا ہے اول کی دس آیت کا نور ہے اور جو نور پیر کی طرف سے بلند ہوا ہے وہ آخر کی دس آیت کا نور ہے اور جو نور سینہ سے بلند ہوا وہ اس سورہ کی آیت سجدہ کا نور ہے اس نور نے آسمان تک جا کر اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کی اور سورہ تبارک الذی جسکو میں ہر رات پڑھا کرتا تھا وہ میری حفاظت کرتی ہے یہ کہہ کر وہ سرد ہو گئے اس روایت کو جو سہر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔

زیارۃ قبور: حدیث پاک میں ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اب زیارت کیا کرو۔ الی آخرہ۔ (مسلم شریف)

ابتداءً اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے کسی مصلحت کی بناء پر منع کیا تھا۔ بعض

بزرگان دین نے لکھا ہے کہ لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے اندیشہ تھا کہ کہیں قبر پرستی شروع نہ ہو جائے۔

جب ان میں اسلام راسخ ہو گیا تو حضور ﷺ نے زیارت قبور کی اجازت فرمادی جس سے یہ ممانعت منسوخ ہو گئی۔

زیارت قبور کے فوائد: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

حضور ﷺ نے فرمایا۔ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب ان کی زیارتیں

کیا کرو۔ کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد پیدا کرتی ہے۔ (ابن ماجہ)

حدیث پاک کی روشنی میں زیارت قبور سے دو بیش قیمت چیزوں کا حصول ہوتا ہے۔

1۔ دنیا سے بے رغبتی

2۔ آخرت کی یاد۔

قارئین کرام! کتنے بڑے دو عظیم مقاصد ہیں جو زیارت قبر سے حاصل ہوتے ہیں اس

سے آپ زیارت قبور کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ان ہر دو قیمتی ہیروں کا حصول زیارت قبور سے ممکن ہے۔

امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی ہے۔

ذکر القبر یقر بکم من الجنة۔ (مسند الفردوس)

قبر کا ذکر تم کو جنت کے قریب کر دیگا۔

روضہ اقدس کی زیارت:۔ مدینہ شریف کی سر زمین پاک میں اس ارض مقدسہ کو بے

مثل اور بے مثال شان و عظمت حاصل ہے۔ جس میں آپ ﷺ آرام فرمائیں۔

اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو

آسمان پہ تو کوئی گنبد خضراء نہیں کوئی۔

علامہ شبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

قبر النبی ﷺ افضل من الكعبة والعرش والكرسى۔ (فتح الملہم)
حضور ﷺ کی قبر شریف کعبہ عرش اور کرسی سے افضل ہے۔ سبحان اللہ

ستر ستر ہزار فرشتوں کی حاضری: حضرت نبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت وہب سے

روایت ہے کہ کعب احبار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے رسول اللہ ﷺ کا ذکر کیا۔ کعب نے کہا کوئی دن ایسا نہیں کہ اس کی فجر ظاہر ہو مگر ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور وہ حضور ﷺ کی قبر کو گھیر لیتے ہیں۔ اپنے بازوؤں سے اور رو د بھیجتے ہیں حضور ﷺ پر اور جب شام ہوتی ہے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔

اور اتنے فرشتے (شام کو) پھر اترتے ہیں اور وہ بھی دن والوں کی طرح کرتے ہیں جب آپ ﷺ کی قبر شریف شق ہوگی (اور آپ قبر سے باہر تشریف لائیں گے) تو آپ ﷺ ستر ہزار فرشتوں کی معیت میں ہونگے۔ جو آپ ﷺ کو گھیرے میں لئے ہوئے ہونگے۔ (رواہ الدارمی، مشکوٰۃ)

قارئین کرام! قبر شریف کی زیارت کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ آپ ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں خود اسکی ترغیب دی جن میں سے چند احادیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے ان سے آپ کی قبر شریف کی زیارت کی شان و عظمت اور اہمیت واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سبکو بیت اللہ شریف کی اور روضہ رسول ﷺ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین

احادیث مبارکہ: حضور ﷺ کی قبر شریف کی زیارت کے بارے میں چند احادیث

☆۔ من وجد سعة ولم یزرنی فقد جفانی۔ (مراتی الفلاح)

جس شخص کو استطاعت نصیب ہوئی اور اس نے میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔

چاروں فقہی مسالک نے روضہ اقدس کی زیارت کو حقائق اور واقعات کی روشنی میں واجب ہونے کا فتویٰ تک دیا ہے۔

علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

ترجمہ۔ احناف نے فرمایا ہے زیارت افضل ترین مستجاب میں سے ہے بلکہ درجہ واجب کے قریب ہے۔ بعینہ اسی طرح الشیخ حسن بن عمار بن علی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مرقی الفلاح نے لکھا ہے ایمان والوں کے لیے حضور نبی کریم ﷺ کے روضہ اقدس (قبر شریف) کی زیارت کا حصول بہت ہی بڑی سعادت اور خوش بختی ہے زیارت کرنے والوں کو حضور ﷺ کے روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے بہت بڑے ثمرات اور برکات نصیب ہوتے ہیں۔

زیارت کے ثمرات (طوالت سے بچنے کے لیے چند ثمرات): حضور ﷺ فرماتے ہیں۔

☆۔ من زار قبری و جبت له شفاعتی۔ (دارقطنی، بیہقی)

جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔

اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے علامہ شہاب الدین الخفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

فہو بشری بموتہ مسلماً۔ (نسیم الریاض)

اس حدیث پاک میں زیارت کرنے والے (ایمان دار) کے لیے اس بات کی خوشخبری ہے کہ وہ مسلمان مرے گا۔ اس لیے کہ آپ ہر اس شخص کی شفاعت کریں گے جو مسلمان مرے گا۔

☆۔ من زارنی متعمداکان فی جوار ی یوم القیامۃ۔ (ابو جعفر عقیلی)

جس نے بالقصد میری زیارت کی وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا۔

☆۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ من زار

قبری فی المدینۃ محتسباً (ای ناویا بزیارتہ وجہ اللہ تعالیٰ

من غیر غرض فی نیتہ و قصد اکرامہ لاینوی غیرہ) کان فی

جواری و کنت له شفیعاً یوم القیامة۔ (نیم الریاض)

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے حصول ثواب کے لیے میری قبر کی مدینہ شریف میں آکر زیارت کی وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا اور میں اس کی شفاعت کرونگا۔

شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

1۔ بریکٹ والی عبارت کا مفہوم۔ یعنی زیارت سے نیت رضاء الہی ہونیت میں خلوص ہو کوئی اور غرض نہ ہو آپ ﷺ کے اکرام کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ وہ میرے پڑوس میں ہوگا قیامت کے دن میں اسکی شفاعت کرونگا۔

2۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کے بارے میں

وفی قوله فی المدینة اعلام بانہ ﷺ يموت بالمدينة ويدفن

فيها فهو من اخباره بالمغيبات و ان كان لا تدري نفس باى

ارض تموت۔ (نیم الریاض) شارح علیہ الرحمۃ نے کیا ہی خوب وضاحت کر دی۔

حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کے مطابق یہ بات (باعلام اللہ تعالیٰ) غیب کی اطلاع ہے کہ آپ ﷺ کی موت مدینہ شریف میں ہوگی اور مدینہ شریف کی سر زمین میں ہی دفن ہونگے اگرچہ کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت ہوگی۔

اس حدیث پاک سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح ثابت ہوگئی۔ کہ قبر شریف کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ علاوہ ازیں دارقطنی نے روایت کی ہے جس شخص نے میری

وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی اور جو حرمین

شریفین میں سے ایک میں مر گیا۔ وہ قیامت کے دن امن والوں کے زمرہ میں اٹھایا جائیگا

۔ (دارقطنی وغیرہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا من حج

البيت ولم يزرني فقد جفاني۔ (کامل ابن عدی)

جس شخص نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ حجاج کرام سے گزارش ہے کہ وہ حج کرنے کے بعد حضور ﷺ کے روضہ اقدس کی زیارت کے بغیر خدارا واپس نہ آئیں زیارت کے بغیر واپس آنے والوں کے لیے کتنی بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔

در بار رسالت :- حضور ﷺ کے روضہ اقدس پر حاضری کی بہت بڑی شان و عظمت یہ بھی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور ﷺ کی شفاعت سے عاصیوں ظالموں اور دیگر قسم کے گناہ گاروں کو توبہ کرنے سے بخشش حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا والله واستغفر

لهم الرسول لو جدوا الله تو ابا رحیما۔ ۴/۶۴

ترجمہ :- اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں (تو اے محبوب) تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ﷺ ان کی شفاعت فرمائے۔ تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

قارئین کرام! گناہ گار کے لیے توبہ کا قبول ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا حصول خصوصی طور پر روضہ اقدس کی حاضری سے نصیب ہوتا ہے۔ (اللہ تعالیٰ ہر مقام اور ہر جگہ پر گناہ گاروں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تاہم مقامات مقدسہ کو شرف ضرور ہے)

ایمان افروز واقعات:- 1۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے وصال کے تین روز بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور حضور ﷺ کے مزار مقدس پر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول ﷺ جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا ہے جو آپ ﷺ نے اپنے رب سے سیکھا وہ آپ ﷺ سے ہم نے سیکھا۔

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك

یہ آیت پڑھی اور عرض کیا کہ میں نے اپنی جان پر بڑے بڑے ظلم کیے یا رسول اللہ ﷺ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں میری مغفرت کی دعا فرمائیے فنودی من القبر انه قد غفر لك۔ قبر انور سے آواز آئی تھی بخش دیا گیا ہے۔ (تفسیر قرطبی۔ تفسیر مدارک)

آیت کریمہ ولو انهم اذا ظلموا انفسهم جاؤك۔ الی آخرہ کا حکم آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ مختص نہیں ہے آپ کی وفات سے یہ حکم منقطع نہیں ہوا۔ ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح تو سل اور دعا کرنے سے اعرابی کو روک دیتے۔ (آپ کو وصال ہوئے تین دن ہوئے تھے) نیز قبر انور سے اعرابی کو بخشش کی خوشخبری نہ سنائی جاتی۔

2۔ دوسرا واقعہ:- حضرت محمد بن عبید اللہ بن عمرو عقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کہ میں مدینہ شریف میں داخل ہوا اور رسول اللہ ﷺ کی قبر شریف کی زیارت کی اور حضور ﷺ کی قبر شریف کے سامنے بیٹھ گیا ایک اعرابی نے آکر زیارت کی اور یوں عرض کیا۔ یا خیر الرسل اللہ نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل کی جس میں یوں ارشاد ہے۔

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تو اباً رحیماً۔

ترجمہ: اور یہ لوگ جس وقت کہ اپنی جانوں پر ظلم کریں آپ کے پاس آتے اور اللہ سے بخشش

مانگتے اور رسول اللہ ﷺ بھی ان کے لیے بخشش مانگتا تو اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ (اعرابی نے عرض کیا) میں آپ کی خدمت میں آپ کے رب سے گناہوں کی مغفرت کا طالب اور آپ کی شفاعت کا طلب گار بن کر حاضر ہوا ہوں پھر اس نے رو کر اشعار پڑھے تو بہ کی اور چلا گیا۔ (حضرت عقی) کہتے ہیں میں سو گیا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں تم اس شخص سے ملو اور اسے بشارت دو کہ اللہ نے میری شفاعت سے اس کے گناہ معاف کر دئے میری آنکھ کھلی تو میں اسکی تلاش میں نکلا مگر وہ نہ ملا۔ (الوفاء جز ثانی۔ سیرت رسول عربی)

3۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری۔ حضور ﷺ کے وصال کے

بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ ﷺ کے فراق میں مدینہ شریف میں رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ اس لیے آپ شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے تقریباً چھ ماہ کے بعد حضور ﷺ کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی حضور ﷺ نے فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا ہے کیا ہماری ملاقات کے لیے تیرا جی نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ

خواب سے بیدار ہوئے تیاری کی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے مدینہ منورہ پہنچے سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوئے قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ غلام حاضر ہے یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے۔ (ابن عساکر) ملک شام سے سفر کر کے مدینہ شریف آئے۔

4۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت حضور ﷺ کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے آئی اور کہا حضور ﷺ کی قبر مبارک سے پردہ ہٹا کر مجھے قبر شریف کی زیارت کرا دو۔

فکشفته لها فبکت۔ (شفاء) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے پردہ ہٹایا وہ عورت آپ ﷺ کی قبر شریف کو دیکھ کر اتاروئی حتی کہ روتے روتے انتقال کر گئی۔ (شفاء)

5- حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل بیت المقدس سے صلح کی تو کعب احبار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش ہوئے اور فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ مدینہ منورہ چلو اور حضور ﷺ کی قبر شریف کی زیارت سے فائدہ اٹھاؤ حضرت کعب احبار نے جواب دیا کہ ہاں۔ (زرقانی علی المواہب)

حدیث لا تشد الرحال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا

لا تشد الرحال الا الی ثلاثة مساجد المسجد الحرام

ومسجد الرسول والمسجد الاقصی۔ (بخاری)

کجاوے نہ باندھے جائیں مگر تین مسجدوں یعنی مسجد حرام و مسجد رسول ﷺ (مسجد نبوی) اور مسجد اقصیٰ کی طرف۔

قارئین کرام! اس حدیث پاک کے مفہوم سے روضہ شریف کی زیارت کے لیے سفر

کرنے سے ممانعت سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ مذکورہ بالا حدیث پاک میں متشئاً منہ مساجد ہیں۔

علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ اس کی یوں وضاحت فرماتے ہیں۔

علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت رسول عربی کے صفحہ ۸۱۰ پر لکھتے ہیں۔ حدیث زیر

بحث کے بعض طرق پر مراد و مقصود کی تصریح اور متشئاً منہ کا ذکر موجود ہے۔ اور وہ مسند امام احمد

یوں مذکور ہے۔

حدثنی ہاشم حدثنی عبد الحمید حدثنی شہر (بن

حوشب) سمعت اباسعید الخدریؓ ذکر عنده صلوة فی

الطور فقال قال رسول ﷺ لا ینبغی للمطی ان تشدر حاله

الى مسجد يتغى فيه الصلوة غير المسجد الحرام
 والمسجد الاقصى و مسجدى هذا ر قسطلان - وعمدة القارى
 حضرت شھر (بن حوشب) رحمة الله عليه بيان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنان کے پاس (کوہ) طور کے مقام پر جا کر نماز (پڑھنے) کا
 ذکر آیا۔ پس آپ نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ شتران سواری کے کجاوے کسی مسجد کی
 طرف بقصد نماز نہ باندھے جائیں سوائے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ اور میری اس مسجد کے
 (مسند امام احمد)۔

قارئین کرام! زیر بحث حدیث پاک کی شرح حدیث پاک سے ہی ہوگئی اور یہ بہترین
 شرح ہے اس سے اس بات کی اچھی طرح سے وضاحت ہوگئی کہ حضور ﷺ کے روضہ اقدس
 کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز اور مستحسن ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عہد مبارک
 سے اس وقت تک مسلمانوں کا اسی پر عمل رہا ہے۔ اب بھی ہر سال لاکھوں کی تعداد
 میں مسلمانان عالم حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ تا انقراض عالم
 کرتے رہیں گے۔

ماں باپ کی قبروں کی زیارت: - محمد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ
 اس حدیث کو حضور ﷺ کی طرف مرفوع کرتے ہیں فرمایا جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے
 ایک کی قبر کی ہر جمعہ میں زیارت کیا کرے تو اسکی بخشش کی جائیگی اور وہ بھلائی کرنے والوں
 (ماں باپ کے فرمانبرداروں) میں لکھا جائیگا۔ (بیہقی)
 حضور ﷺ فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے حج کیا
 - اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کریگا۔ (شرح الصدور)

قارئین کرام! ماں باپ کا تو بڑا مقام ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ والد کے دوستوں اور

والدہ کی سہیلیوں کو اپنا باپ اور ماں سمجھو اور ان کی خدمت کرو۔

احادیث مبارکہ :- زیارت قبور کے بارے میں مزید چند احادیث مبارکہ

☆ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کا طریقہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی ان کے ہاں شب کی باری ہوتی تھی۔ تو آپ آخر رات بقیع (مدینہ شریف کا قبرستان) کی طرف نکل جاتے۔ (مسلم)

☆ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مدینہ میں کچھ قبروں پر گزرے تو ان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا۔ پھر فرمایا اے قبر والو تم پر سلام ہو اللہ ہمیں اور تمہیں بخشے تم ہمارے اگلے ہو۔ ہم تمہارے پیچھے۔ (ترمذی)

آپ ﷺ قبور کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے۔ زیارت قبور کے موقع پر اس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔

شہدائے احد کی زیارت کے موقع پر

حدیث پاک :- (1) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قبروں پر ٹھہرے (تشریف لائے) اور فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ قیامت تک جو ان پر سلام کریگا۔ یہ جواب دیں گے۔ (طبرانی، معجم اوسط)

(2) حضرت عبداللہ بن ابی فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ شہداء احد کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ اور (اللہ تعالیٰ سے) عرض کی الہی تیرا بندہ اور تیرا نبی گواہی دیتا ہے کہ یہ شہید ہیں اور قیامت تک جو ان کی زیارت کو آئیگا اور ان پر سلام کریگا یہ جواب دیں گے۔ (مستدرک۔ بیہقی)

ایک اور روایت میں ہے کہ حضور ﷺ ہر سال شہدائے احد کی زیارت کو جاتے تھے جب قبر کے

قریب پہنچتے تو بلند آواز سے کہتے تھے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی

الدار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر سال شہدائے احد کی زیارت کو جاتے۔ (شرح الصدور)

سلام اور اسکا جواب: ☆۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور ﷺ سے عرض

کیا یا رسول اللہ ﷺ میں زیارت میں کیا کہوں فرمایا یوں کہا کرو۔

السلام علی اهل الدیار من المومنین والمسلمین و یرحم

اللہ المستقدمین منا والمستأخرین و انا ان شاء اللہ بکم

لاحقون۔ (مسلم)

ترجمہ: مومنوں مسلمانوں کے گھر والوں پر سلام ہو اللہ ہمارے اگلے پچھلوں پر رحم فرمائے

اور انشاء اللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔

☆۔ حضرت ابو زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ میرا راستہ

مقابر پر ہے کوئی کلام ایسا ہے کہ جب ان پر گزروں تو کہا کروں۔ فرمایا یوں کہو

السلام علیکم یا اهل القبور من المسلمین والمومنین انتم

لنا سلف و نحن لکم تبع و انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ ترجمہ

۔ سلام تم پر ہے قبور والو اہل اسلام اور اہل ایمان سے تم ہمارے آگے ہو اور ہم تمہارے پیچھے اور ہم

ملنا اللہ تعالیٰ تم سے ملنے والے۔ یہ سن کر۔۔۔ حضرت ابو زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض

کیا یا رسول اللہ کیا مردے سنتے ہیں فرمایا وہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ (عقیلی) مرقاۃ

میں ہے ایسا جواب جسے زندہ سن سکیں ورنہ وہ جواب دیتے ہیں مگر ہم نہیں سن سکتے۔

☆۔ حضرت امام جلال الدین سیوطیؒ اس حدیث پاک کے بارے میں لکھتے ہیں حدیث

سے مراد یہ ہے کہ مردے ایسا جواب نہیں دیتے جو زندہ سن لیں وہ جواب دیتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے۔ (شرح الصدور)

☆ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان بھائی کی قبر سے گزرے جو اسے دنیا میں پہچانتا ہو۔ اور وہ اسے سلام کہے تو میت اسے پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ (مرقاۃ)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے واقف (میت) کی قبر سے گزرے اور سلام کہے تو میت اسے پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ (ابن ابی الدنیا)

☆ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں حضور پر نور ﷺ نے فرمایا۔

ما من رجل يزور قبر اخيه ويجلس عليه الا استائس ورد عنده حتى يقوم۔ (ابن ابی الدنیا)

ترجمہ: جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت قبر کو جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے میت کا دل اس سے بہلتا ہے اور جب تک وہاں سے اٹھے مردہ اس کا جواب دیتا ہے۔
حضور ﷺ سے مروی ہے۔

انس ما يكون الميت في قبره اذا زاره من كان يحبه في دار الدنيا۔ (شفاء القام۔ شرح الصدور)

ترجمہ: قبر میں مردے کا زیادہ جی بہلنے کا وقت ہوتا ہے جب اس کا کوئی پیارا زیارت کو آتا ہے۔
حضرت عطف مخزومی کی خالہ سے روایت ہے۔

کہ ایک دن میں نے قبر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نماز پڑھی اس وقت جنگل بھر میں کوئی نہیں تھا بعد نماز مزار مطہر پر سلام کیا جواب آیا اس کے ساتھ فرمایا۔

من يخرج من تحت القبر اعرفه كما اعرف ان الله خلقني

و كما اعرف الليل والنهار۔ (ابن ابی الدنیا۔ بہقی)

ترجمہ: جو میری قبر کے نیچے سے گذرتا ہے میں اسے ایسا پہچانتا ہوں جیسا یہ پہچانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس طرح رات اور دن کو پہچانتا ہوں۔

حافظ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کیا ہی خوب لکھا ہے۔

موتی کو سلام کہنا مشروع کیا گیا ہے اور ایسے شخص کو سلام کہنا جو نہ شعور رکھتا ہو نہ سلام کہنے والے کو جانتا ہو محال ہے۔ اور حضور ﷺ نے امت کو تعلیم دی ہے کہ جب قبریں دیکھو تو سلام کہو۔ یہ سلام خطاب اور ندا ہے موجود کے لیے جو سننے سمجھے اور اسے خطاب کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ خطاب معدوم اور پتھر کو ہوگا اور سلف کا اس پر اجماع ہے متواتر روایات میں آچکا ہے کہ میت زندہ زائر کو پہچانتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ (ابن کثیر)

اس باب کے آخر میں اس حدیث پاک کو پڑھیں جو امام ابو عبد اللہ محمد ابن یوسف بن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ حیثما مررت بقبر کافر فبشره

بالنار۔ تو جس جگہ کافر کی قبر پر گذرے تو اسے جہنم کی خبر دے۔ (سنن ابن ماجہ)

مستحب امر: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ زائر قبور کے لیے مستحب یہ ہے کہ جتنا اس سے ہو سکے قرآن پاک پڑھے اور اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ (شرح الصدور)

میت کی انتظار: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔ کہ میت کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے۔

وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کو باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے دعا پہنچے۔ اور جب اسکو کسی

کی دعا پہنچتی ہے تو وہ دعا کا پہنچنا اس کو دنیا و مافیہا سے محبوب تر ہوتا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کی مثل اجر و رحمت عطا کرتا ہے اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعاء کی جائے۔ (مشکوٰۃ شریف)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے ایک نیک بندے کا درجہ بلند فرمایا تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب میرا درجہ کیونکر بلند ہوا۔ ارشاد ہوا کہ تیرا بیٹا جو تیرے لئے دعائے بخشش مانگتا ہے اس وجہ سے۔ (مشکوٰۃ)

☆ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ لوگو جس طرح اس زندگی میں تم کھانے پینے کے محتاج ہو بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر مردے تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ (شرح الصدور)

قارئین کرام! احادیث مبارکہ کی روشنی میں مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ ہم زیارت قبور کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اور اسی طرح اموات کو ثواب جزیل سے محروم نہ رکھیں۔

اموات کے لیے۔ صرف ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ایصالِ ثواب کرنے کا ثواب جزیل پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔

قاضی ابوبکر بن عبد الباقی انصاری سلمہ بن عبید سے راوی کہا کہ حماد کی نے کہا کہ میں ایک شب مکہ کے قبرستان میں گیا اور سوراہا تو میں نے قبرستان والوں کو حلقہ حلقہ دیکھا۔ میں نے

کہا: کیا قیامت قائم ہوگئی؟ بولے: نہیں! لیکن ہمارے بھائیوں سے ایک شخص نے قل

هو الله احد پڑھ کر اس کا ثواب ہم لوگوں کو بخشا ہے تو ہم سال بھر سے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ (مرقاۃ)

قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر پڑھنے والے کے لیے کم از کم دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اگر سورۃ اخلاص کی تعداد گیارہ ہو جائے۔ یا سورۃ یسین پڑھ لی جائے تو اس کا ثواب جزیل کتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب اس ضمن میں پڑھنے والے کے لیے نیکیوں کی تعداد پڑھیں۔

عن علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی ﷺ قال من مر علی المقابر فقراء قل هو اللہ احد O عشر مرة ثم وهب

اجرھا لا موات اعطی الا جر بعدہ الاموات۔ (رواہ الدارقطنی)

ترجمہ: حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے راوی کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جو شخص قبرستان

میں گزرے اور گیارہ مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشے اس کو ان مردوں

کے بدولت ان مردوں کے برابر ثواب ملے۔ (یعنی شرح ہدایہ جلد ۲، ص ۶۱۱ و شامی جلد ۲، ص ۲۴۳)

عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال من

دخل المقابر فقراء سورة يس خفف الله عنهم وکان له

بعدد من فیھا حسنات رواہ عبد العزیز صاحب الخلال

بسندہ۔ (مرقات ج ۲، ص ۳۸۲)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص

قبرستان جائے اور سورۃ یسین پڑھے اللہ تعالیٰ ان مردوں سے مواخذہ ہلکا فرمائے اور جس

قدر مردے اس قبرستان میں ہیں انکی تعداد کے مطابق اس شخص کو نیکیاں ملیں گی۔

اقول وباللہ التوفیق قارئین کرام اس سے قبل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

مروی حدیث پاک تحریر کر چکا ہوں۔ جسکی روشنی میں زیارت قبور سے دو بیش بہا قیمتی فوائد

یعنی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد نصیب ہوتے ہیں اب دو احادیث پاک تحریر کی ہیں

ان کی روشنی میں زائر کو زیارت قبور کے موقع پر گیارہ مرتبہ قبل شریف یا ایک دفعہ سورۃ یسین شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرنے سے قبرستان میں مدفون اموات کی تعداد کے مطابق نیکیاں ملتی ہیں۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ یہ بہت بڑا ثواب ہے۔

قبرستان خصوصاً بڑے قبرستانوں میں ہزاروں کی تعداد میں اموات مدفون ہوتے ہیں مدفون اموات کی تعداد کے مطابق زائرین کو نیکیوں کا ملنا مدفون اموات کی بخشش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور خصوصی عطا ہے۔

بردران اسلام۔ زیارت قبور کی بڑی عظمت اور اہمیت ہے لہذا ہمیں اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

اموات کو ایذا۔ زندہ لوگوں کی بے اعتدالیوں سے اموات کو ایذا ہوتی ہے حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور ﷺ نے مجھے قبر سے تکیہ لگائے دیکھا آپ ﷺ نے فرمایا لا توذ صاحب هذا القبر۔ (احمد)

اس قبر والے کو ایذا نہ دے۔

حاکم اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضور ﷺ نے مجھے ایک قبر پر بیٹھے دیکھا فرمایا۔ یا صاحب هذا القبر انزل من علی القبر لا توذی صاحب القبر ولا یوذیک۔ (حاکم و طبرانی)

اوقبر والے قبر سے اتر نہ تو صاحب قبر کو ایذا دے اور نہ وہ تجھے ابن ابی الدنیا ابو قلابہ بصری راوی ہیں کہ میں ملک شام میں بصرہ کو جاتا تھا۔ رات کو خندق میں اتر اوضو کیا۔ دو رکعت نماز پڑھی پھر ایک قبر پر سر رکھ کے سو گیا۔ جب جاگا تو صاحب قبر کو دیکھا کہ مجھ سے گلہ کرتا ہے اور کہتا ہے۔ لقد اذیتنی منذ اللیلة۔ اے شخص تو نے مجھے رات بھر ایذا دی۔ (ابن

ابی الدنیا) معلوم ہوا کہ میت کو باہر کی خبر ہوتی ہے۔
حافظ ابن مندہ امام قاسم سے راوی ہیں۔

کہ ایک شخص نے قبر پر پاؤں رکھا۔ جاگتے میں سنا۔ الیک عنی یارجل
ولا توذنی۔ اے شخص الگ ہٹ مجھے ایذا نہ دے۔

قارئین کرام! احادیث پاک کی روشنی میں میت زائر کا سلام سنتا ہے سلام کا جواب دیتا
ہے واقف کو جانتا ہے۔ اور مانوس ہوتا ہے اور اسی طرح میت کو قبر پر تکیہ لگانے۔ پاؤں
رکھنے اور قبر پر بیٹھنے سے ایذا ہوتی ہے۔ یہ ساری صورتیں میت کے دیکھنے اور باہر کی خبر
رکھنے پر دلالت کرتی ہیں۔

حدیث پاک کی روشنی میں میت بھی ایذا دینے والوں کو ایذا دینے پر قدرت رکھتا ہے جیسا
کہ حاکم اور طبرانی کی روایت میں ولا یوذیک کے مبارک الفاظ میں گذر چکا ہے۔ اس
سے واضح ہوا کہ میت ایذا دینے والوں کو دیکھتا ہے۔ پہچانتا ہے۔ جسکی وجہ سے میت کا
ایذا دینا ممکن ہو سکتا ہے۔

قرآن پاک کی وہ آیات کریمہ جن سے موتی کا عدم سماع سمجھا جاتا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

انک لاتسمع الموتی ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولو
امدبرین۔ وما انت بهدی العمی عن ضللتهم ان تسمع
الامن یومن بایتنا فہم مسلمون۔ ۲۷/۸۰

ترجمہ۔ بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے اور نہ سنائے بہرے پکار سنیں جب
پھیریں پیٹھ دیکر اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں تمہارے سنائے تو وہی

سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔

بعينه فانك لاتسمع الموتى سے فہم مسلمون تک سورہ

روم کی آیت نمبر ۵۱-۵۲/۳۰ میں

اسی طرح کا ارشاد ہے جن حضرات نے ان آیات سے مردوں کا عدم سماع ثابت کیا ہے وہ بھی ہمارے لئے قابل عزت ہیں لیکن آئیے دیکھیں کہ مفسرین حضرات نے ان آیات کی تفسیر میں کیا لکھا ہے۔

قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب لکھتے ہیں۔

انك لاتسمع الموتى اى الكفار شبہم بالموتى بعدم الا

نتفاع لهم بتسامع ما يتلى عليهم ان تسمع يعنى لاتسمع

ولا ينفع اسماعك القرآن احد الا من يومن بايتنا من قدرنا

ایمانہ۔ (تفسیر مظہری)

آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی کافروں کو ان کو مردوں سے تشبیہ دی کہ جو کچھ انہیں پڑھ کر

سنایا جائے اسے سن کر نفع نہیں حاصل کر سکتے ان تسمع یعنی آپ نہیں سنا سکتے اور آپ کے

قرآن سنانے کا فائدہ صرف وہی اٹھا سکتا ہے جسے ہماری آیات پر ایمان ہو یعنی جس کے

لیے ہم نے ایمان لانا مقدر کر دیا ہو۔

علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

1- انك لاتسمع الموتى يعنى موتى القلوب وهم الكفار۔

ترجمہ۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی ان کو جن کے دل مر چکے ہیں اور وہ کفار ہیں۔ (خازن)

2- وما انت بسمع من فى القبور يعنى الكفار شبہم

بالاموات فى القبور حين لا يجيبون -

ترجمہ۔ من فى القبور۔ یعنی کفار کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو قبروں میں پڑے ہیں وہ قبول نہیں کرتے۔ (خازن)

امام ابو محمد الحسین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

انك لاتسمع الموتى يعنى الكفار۔ (معالم التنزيل)

ترجمہ۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی کفار کو۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے

والمراد بالموتى ومن فى القبور الكفار شبهوا بالموتى وهم

احياء والمعنى هم فى حال الموتى او حال من سكن القبر

وعلى هذا لا يبقی فى الاية دليل على مانفته عائشه۔

ترجمہ۔ موتی اور من فى القبور سے مراد کفار ہیں انہیں مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے

حالانکہ وہ زندہ ہیں مطلب یہ ہوا کہ ان کا حال مردوں کا سا ہے۔ جو قبر میں پڑا ہو مزید برآں

آیت میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں جسکی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نفی کی

ہے۔ (فتح الباری)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

ترجمہ۔ سماع سے مراد یہ کہ حق کو قبول نہیں کر سکتے اس کی دلیل یہ ہے کہ دو آیتیں کفار کو ایمان

کی دعوت دینے میں نازل ہوئی ہیں اور اس امر کی نشاندہی ہے کہ انہوں نے حق کو قبول نہ کیا

۔ علماء نے کہا ہے کہ موتی سے مراد وہ لوگ ہیں جنکے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان کے جسم

گویا ان کی روحوں کی قبریں ہیں اور ان قبروں میں ان کے مردہ دل پڑے ہوئے ہیں

۔ (اشعۃ اللمعات۔ حیات برزخیہ)

صاحب تفسیر نور العرفان مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ نمل کی آیت نمبر ۸۰ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ انک لاتسمع الموتی سے فہم مسلمون

تک۔ ۲۷/۸۰

تفسیری نور العرفان میں ہے۔

یہاں مردوں سے مراد دل کے مردے ہیں یعنی کفار اور اندھوں سے مراد دل کے اندھے ہیں ورنہ ان کا مقابلہ ایمان سے نہ کیا جاتا مردوں کا سننا قرآنی آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔۔۔۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے۔ فانہا لاتعمی الابصار ولكن

تعمی القلوب التی فی الصدور۔

اس لئے قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کرنا سنت ہے حضور ﷺ کو التحیات میں سلام کرنا واجب ہے حالانکہ جو سلام سنتا نہ ہو یا سنتا تو ہو مگر جواب نہ دے سکتا ہو اسے سلام کرنا منع ہے۔ (تفسیر نور العرفان)

آگے چل کر سورہ روم فانک لاتسمع الموتی سے فہم مسلمون ۵۲-۳۰/۱۵۳ کے مقام پر لکھا ہے۔ یہاں مردوں سے مراد کافر ہیں نہ کہ میت ورنہ انکا مقابلہ مومن سے نہ ہوتا کیونکہ مومن کافر کا مقابل ہے مردہ کا نہیں مردوں کا سننا قرآن شریف سے بھی ثابت ہے۔

واسئل من ارسلنا قبلك من رسلنا۔ نیز حضرت شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام نے مردہ قوم سے خطاب فرمایا۔ حضور ﷺ نے جنگ بدر کے مقتول کافروں سے خطاب فرمایا۔ جیسا کہ پہلے تحریر ہو چکا ہے۔ (نور العرفان)

اہل دنیا اور اہل برزخ
والوں کا باہمی رابطہ

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی خصوصی کرم نوازی سے ایسے ذرائع اور ایسے وسائل فرمادیئے ہیں کہ جنکی بدولت اہل دنیا اور اہل برزخ ایک دوسرے کے حالات سے اکثر باخبر ہوتے رہتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے مقامات کی معرفت حاصل کرتے رہتے ہیں تاہم یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ جسے جیسے چاہیں اسکو اس نعمت سے نواز دیں۔ ذالک

فضل اللہ يعطيه من يشاء علماء کرام نے اہل برزخ کے حالات سے مطلع ہونے کے کئی طریقے تحریر فرمائے ہیں ان میں سے کثیر الوقوع صرف دو کا ذکر کرنے پر اکتفاء کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ

1۔ کشف 2۔ روایئے صادقہ

کشف: وہ ذرائع جن سے عالم برزخ والوں سے براہ راست برزخی مقامات کا علم ہو سکتا ہے۔ ایک ذریعہ کشف بھی ہے جو مراقبہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس واسطے کشف کا حصول اور نصیب صرف عرفاء اور صوفیاء کا ہے اور صوفیاء کرام کی اصطلاح میں کشف القبور کے نام سے معروف کشف بھی اسی کا حصہ ہے بعض حضرات کو کشف القبور میں اتنی مہارت ہوتی ہے کہ وہ اپنی روح کو میت کی روح سے قریب کر کے ان سے معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔

کشف والهام کی عظمت: علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الہام وحی

انبیاء کی قسموں میں سے ہے (فتح الباری) علماء کرام نے لکھا ہے کہ وحی جلی کے سوا تلقی عن الغیب کی تمام اقسام کا نام کشف والهام رکھا گیا ہے اور جب وحی جلی حضور نذر موجودات خاتم الانبیاء ﷺ کے ساتھ منقطع ہوگئی تو اب۔ تلقی عن الغیب کی صرف

ایک قسم کشف والهام باقی رہ گئی۔

قارئین کرام! کشف والهام وحی باطنی ہے اور کمالات نبوت سے ہے۔ ذکر الہی سے مومن کا دل جب منور ہو جاتا ہے۔ تو اسکی روشنی میں عرش الہی جہاں سے امر کا نزول ہوتا ہے نظر آتے ہیں امور برزخ جنت اور دوزخ نظر آتے ہیں اسی کا نام کشف ہے جو آگے آنے والے صفحات پر صحابی رسول ﷺ حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ سے اچھی طرح واضح ہے۔

کشف کن لوگوں کو ہوتا ہے: کشف کمالات نبوت سے ہے کشف ایمان کے کمال سے نصیب ہوتا ہے کشف اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب میں ڈالا جاتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کشف کے بارے میں فرماتے ہیں۔

ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مکرم بنائے اس کے نور قلبی میں اضافہ کر کے اس کی قلبی نظر کو قوی کر دے اور حقیقت یہ ہے یہ ایسا نور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے خصوصی طور پر عطا فرمادے (فتح الباری)

علم غیب نہیں: کشف علم غیب نہیں جیسا کہ تحریر کیا جا چکا ہے کہ کشف علام الغیوب کی طرف سے قلب میں ڈالا جاتا ہے۔ غیب کا ذاتی طور پر جاننا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات سے خاص ہے علم غیب ذاتی کی تعریف یہ ہے اس کی ابتداء اور انتہاء نہ ہو اور کسی واسطہ سے حاصل نہ ہو۔ اولیاء اللہ کا علم ذاتی نہیں بلکہ کشف اور الہام کے واسطے سے ہوتا ہے۔ قدیم نہیں بلکہ حادث اور حصولی ہے۔

کشف کا انقلابی اثر: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے کثیر تعداد میں جادو گروں کو جمع کیا۔ دن مقرر کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فرماتے ہیں۔

دسویں محرم اور ہفتہ کا دن تھا کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے ابتداء کرنے کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے مبارک پر ادباً چھوڑا۔

اس ادب کی برکت سے آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت ایمان سے مشرف فرمایا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ابتداء کرنے کے لیے فرمایا چنانچہ جادوگروں نے رسیاں لٹھیاں وغیرہ جو سامان لائے تھے سب ڈال دیا میلوں کے اس بڑے میدان میں جادوگروں کی نظر بندی سے سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک ڈالا وہ بھی سانپ بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے تمام اثر دھوں اور سانپوں کو نکل گیا آدمی اس کے خوف سے گھبرا گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دست مبارک میں لیا تو مثل سابق عصا بن گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں کو یقین ہوا کہ یہ معجزہ ہے جس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔

قرآن پاک میں ہے۔

فالقى السحرة سجدا قالو آما برب هرون و موسىٰ - (طہ ۲۰)
پھر گر پڑے جادوگر سجدہ میں بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔

ساحرین فن کے جاننے والے تھے سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں ہو سکتا سحر سے اوپر کوئی اور حقیقت ہے دل میں ایمان آیا اور سجدہ میں گر پڑے۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔

فما رفعوا رثوسهم حتى راوا الجنة والنار و ثواب اهلها۔ (ابن کثیر)
انہوں نے سجدے سے اس وقت سر اٹھایا۔ جب جنت دوزخ اور ثواب کو دیکھ لیا کشف ہوا حتی کہ جنت میں اپنے منازل بھی دیکھ لئے۔ یہ کشف کا انقلابی اثر تھا کہ فرعون کے درباری

قرب کو چھوڑا موت کو بخوشی قبول کیا۔ زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔

رحمت الہیہ کا کیا کہنا جو لوگ ابھی ابھی رسول خدا سے نبرد آزما کر رہے تھے۔ سجدہ سے سر اٹھاتے ہی اولیاء اللہ اور عارف کامل بن گئے۔ وما ذالك على الله بعزیز

روایت انبیاء علیہم السلام

عالم برزخ سے انبیاء علیہ السلام کی روایت کا شرف بھی خصوصیت کا حامل ہے اس شرف کا حصول بھی کشف سے تعلق رکھتا ہے۔

حدیث پاک: عن ابو ہریرہؓ قال سمعت رسول الله ﷺ

يقول من رانى فى المنام فسيرانى فى اليقظة۔ حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا۔ کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھ لے گا۔

جس خواب ہو جائے دیدار نبی حاصل

اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

☆۔ طریقہ سلوک کی ابتداء مشاہدات و مکاشفات سے شروع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سالکین عالم بیداری میں انبیاء علیہ السلام کے ارواح اور ملائکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں ان کا کلام سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں (المقصد من العلال)۔

☆۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم ﷺ کو ستر سے زیادہ مرتبہ عالم بیداری میں دیکھا ہے۔ (الیواقیت والجواہر، الحاوی للفتاویٰ)

☆۔ شیخ ابوالعباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے عرض کیا حضرت مجھ سے مصافحہ

کیجیے۔ کیونکہ آپ بڑے ملکوں میں پھرے ہیں۔ اور بڑے بڑے بزرگ لوگوں سے آپ نے مصافحہ کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہ ہاتھ سوائے رسول اللہ ﷺ کے کسی سے نہیں ملائے اور فرمایا اگر حضور ﷺ کی ذات ایک لمحہ کے لیے بھی میری آنکھ سے او جھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ (الحاوی للفتاوی)

☆ شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اولیاء کرام کے لیے ولایت کے منشور لکھ رہے ہیں ان میں سے ایک میرے بھائی محمد کا منشور بھی تھا۔ (الحاوی للفتاوی)

☆ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔

قال علی وفا فرایت النبی ﷺ قبالة فعا نقنی فقال و اما
بنعمة ربك فحدث۔ (فتاوی الخدیثیہ)

ترجمہ: حضرت علی وفا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اپنے رو برو دیکھا پھر آپ نے میرے ساتھ معانقہ فرمایا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کیا کر۔
☆ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

از شیخ ابو المسعود آورده کہ مصافحه می کرد آنحضرت
ﷺ را بعد هر نماز (اشعة اللمعات) کہ

ترجمہ: حضرت شیخ ابوالمسعود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ وہ ہر نماز کے بعد حضور ﷺ سے مصافحہ کرتے تھے۔

☆ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

وان سالتنی عن الخبر الصدق فانی تلمیذ القرآن العظیم بلا

واسطہ۔ (الفوز الکبیر)

ترجمہ: اگر مجھ سے سچ بات پوچھیں تو میں قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کرنے میں بلا واسطہ حضور ﷺ کا شاگرد ہوں۔

یعنی میں نے قرآن مجید حضور ﷺ سے پڑھا۔

☆ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر حضور ﷺ سے بیعت کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں (فارسی سے اردو ترجمہ) جب اس معرفت جلیلہ نے میرے دل میں جگہ پکڑی تو میں نے حضور ﷺ کو تبسم فرماتے دیکھا کہ آپ نے مراقبہ سے سر مبارک باہر کیا۔ اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر مجھے بیعت کرنے اور مجھ سے مصافحہ کرنے کا اشارہ فرمایا۔ یہ فقیر اٹھا اور دونوں زانوں کو حضور ﷺ کے زانوں سے متصل کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو حضور ﷺ کے دونوں ہاتھوں میں رکھ کر (آپ ﷺ نے مجھے) بیعت فرمایا۔ (الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ)

زیارت رسول ﷺ کے سبق آموز واقعات

☆ حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کی زیارت کی حضور ﷺ نے فرمایا میں مردہ نہیں ہوں میری موت کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و بصیرت عطا نہیں فرمائی ورنہ اہل فہم و بصیرت تو مجھے دیکھتے ہیں اور میں انہیں دیکھتا ہوں (المنقذ من الضلال)

☆ حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور ﷺ کی زیارت کثرت سے ہوتی تھی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ آپ کی رؤیت کے بارے میں لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت اور عظمت کی قسم ہے۔

جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور تجھے جھٹلاتا ہے تو وہ یہودی، نصرانی یا مجوسی ہو کر مرے گا

(طبقات الکبریٰ)

لعاب دہن کی برکت:- حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ تشریف لائے آپ نے میرے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لعاب دہن ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا اب تم جس مریض پر اپنا لعاب ڈالو گے اللہ تعالیٰ اسے شفاء عطا فرمائیں گے (طبقات الکبریٰ)

☆ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ظہر کی نماز سے قبل حضور ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ نے فرمایا بیٹے آپ بیان کیوں نہیں کرتے میں نے عرض کیا کہ میں عجمی آدمی ہوں۔ بغداد کے فصیح و بلیغ لوگوں کے سامنے کیسے بیان کروں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا آپ ﷺ نے سات مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا۔

چنانچہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا۔ میرے سامنے خلق کثیر کا مجمع تھا۔ (اتنے میں) حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے اور فرمایا تم بیان کیوں نہیں کرتے۔ (میں نے معذرت کی) حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا منہ کھولو میں نے منہ کھولا تو آپ نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں چھ مرتبہ ڈالا۔ میں نے عرض کیا۔ آپ بھی پورے سات مرتبہ فرما لیتے فرمایا حضور ﷺ کے ادب کی وجہ سے پھر نظروں سے غائب ہو گئے۔ (روح المعانی)

☆ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کرسی پر تشریف فرما کر دو عظم فرما رہے تھے تقریباً دس ہزار سامعین کا مجمع تھا۔ حضرت علی بن ہتی رحمۃ اللہ علیہ بھی کرسی کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگاہ علی بن ہتی رحمۃ اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ آپ سو گئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سامعین کو فرمایا۔ اسکتوا۔ چپ ہو جاؤ۔ سب لوگ چپ ہو گئے۔ اور صرف سانس ہی سنائی دینے لگا پس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرسی سے نیچے اتر کر شیخ علی بن ہتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔

اور غور سے ان کی طرف دیکھنے لگے حضرت علی بن ہتی رحمۃ اللہ علیہ (کچھ دیر کے بعد) جاگ گئے۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کیا آپ نے حضور ﷺ کو اس وقت خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ کہ میں کرسی سے (حضور ﷺ) کے ادب کے لیے نیچے اتر آیا تھا۔ پھر پوچھا کہ حضور ﷺ نے تم کو کیا نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا آپ سے رفاقت کی پھر شیخ علی بن ہتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا آپ نے بیداری میں دیکھ لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی تحریر کرتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درمئین میں لکھا ہے کہ سید عبد اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن مجید ایک قاری زاہد سے جو جنگل میں رہتے تھے حفظ کیا۔ ایک بار ہم قرآن مجید پڑھ رہے تھے یکا یک چند آدمی عربی لباس والے بمعہ اپنے سردار کے آگئے اور انہوں نے قاری صاحب کا قرآن پاک سنا۔ ان کے سردار نے قاری صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت کرے تو نے قرآن مجید کا صحیح حق ادا کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ قدسیوں کی جماعت چلی گئی ان کے بعد ایک اور آدمی عربی وضع کا آیا۔ اور کہنے لگا کہ کل رات کو حضور ﷺ نے خبر دی تھی کہ ہم فلاں جنگل میں فلاں قاری کا قرآن مجید سننے جاویں گے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ہم نے جان لیا وہ سردار جو آئے تھے۔ وہ محمد ﷺ تھے جنکو میں نے دیکھا۔ (درمئین)

☆۔ ایک ولی اللہ پر قرض ہو گیا ادا نہ ہو سکا تو قرض خواہ نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے حکم دیا۔ کہ فلاں تاریخ کو رقم عدالت میں پیش کی جائے قرضہ کی رقم تین ہزار دینار تھی۔ ولی اللہ بڑے پریشان ہوئے۔ ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہ آئی پریشانی کے عالم میں (حضور ﷺ کی زیارت ہوئی) آپ ﷺ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ۔ ان کو میرا سلام کہو اور کہو کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

ہے کہ یہ رقم دیدو۔ ولی اللہ کے دل میں خیال آیا۔

کہ وزیر میری بات کیسے مان لیگا دوسرے دن بھی حضور ﷺ نے یہی فرمایا تیسرے دن آپ ﷺ نے فرمایا کہ وزیر کو یہ کہنا (بطور نشانی) کہ تم ہمیشہ بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے پہلے پانچ ہزار بار درود شریف پڑھتے ہو اسکا علم اس کے بغیر کسی کو نہیں۔ جب ولی اللہ وزیر کے دروازے پر پہنچا۔

وزیر کو (نشانی بتلائی) حضور ﷺ کا پیغام مبارک دیا (حضور ﷺ) کا پیغام سن کر وزیر موصوف پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اس نے ولی اللہ سے کہا۔ تم سچے ہو میں تجھے مرحبا (خوش آمدید) کہتا ہوں۔

اس کے بعد تین ہزار دینار مجھے دیئے اور کہا۔ یہ رقم قرض خواہ کو دو۔ اور تین ہزار دینار اور دیئے اور کہا یہ بال بچوں پر خرچ کرو۔ اور پھر تین ہزار دینار دئے اور کہا ان کو تجارت میں لگاؤ اور مجھے قسم دی کہ تم مجھ سے دوستی اور محبت کا رابطہ قطع نہ کرو گے۔ (جذب القلوب) علامہ جبریل الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔

حضرت ابو عبد اللہ قرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شام کا سفر کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار مقدس پر پہنچا تو آپ مجھے ملے میں نے عرض کیا۔ آپ کے ہاں میری مہمانی یہ ہے کہ آپ اہل مصر کے لیے دعا فرمائیں آپ نے دعا فرمائی۔ تو اہل مصر کی مصیبت دور ہو گئی۔ (الحاوی للفتاویٰ)

حیات الانبیاء۔ انبیاء علیہم السلام کے تعدد امثال کے موضوع پر کچھ تحریر کرنے سے

پہلے مسئلہ حیات الانبیاء علیہ السلام کی قدرے وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

تا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام کو صرف تعدد امثال کی عظمت سے نوازا گیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس شرف سے بھی نوازا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں حیات دنیوی حسی کے ساتھ زندہ ہیں۔

حیات الانبیاء کے موضوع پر علماء کرام نے نہایت تفصیل سے کثرت سے حوالہ جات کی روشنی میں اس مسئلہ کو تحریر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین ثم آمین۔ میری معروضات بھی ان کی مرہون منت ہیں طوالت کے خوف سے میں نے نہایت ہی اختصار سے اس مسئلہ کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ منظور و مقبول فرما کر ہم کو نفع مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

حیات الانبیاء علیہم السلام قرآن پاک کی روشنی میں

قرآن کریم میں ہے۔

(1)۔ و سئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون

الرحمن الہة یعبدون۔ ۲۳/۲۵

ترجمہ:- اور ان سے پوچھو جو ہم نے تمہ سے پہلے رسول بھیجے کیا ہم نے رحمن کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے۔ (انبیاء علیہ السلام سے خطاب کرنے کا حکم دیا جانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات تسلیم کی جائے)

مفسرین کرام نے لکھا ہے:- حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ

قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بیت المقدس میں (معراج کی رات) نازل ہوئی جب حضور ﷺ انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھا چکے۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات حضور ﷺ کو معراج

ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے تمام انبیاء علیہ السلام کو بیت

المقدس میں اکٹھا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان اور پھر اقامت کہی اور

کہا۔ اے محمد ﷺ آگے بڑھیے اور انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائیے نماز سے فارغ ہوئے تو

جبرائیل علیہ السلام نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ انبیاء سے (توحید کے بارے میں)

سوال کریں۔ (تفسیر خازن)

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ آیت کریمہ کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ آیت کریمہ کو اپنے ظاہری معنی پر رکھا جائے۔

(انبیاء علیہ السلام سے) یہ ملاقات روح مع الجسد ہوئی۔ یہ ملاقات صرف ارواح سے ملاقات نہیں تھی اور آپ ﷺ کی اقتداء میں جو نماز پڑھی وہ روح مع الجسد تھی۔ (تفسیر قرطبی)

حیات الانبیاء معراج شریف کی روشنی میں

حضور ﷺ کی کمالات نبوت سے معراج شریف کا واقعہ نہایت ہی اہم واقعہ ہے۔ کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے جس میں آپ ﷺ نے حالت بیداری اور عالم دنیا میں ہی ظاہری حیات میں ہوتے ہوئے عالم برزخ اور عالم آخرت کے تمام حالات و واقعات کا مشاہدہ فرمایا اور پھر دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ بلاشبہ یہ آپ ہی کی خصوصیت ہے۔

معراج شریف کی احادیث مبارکہ تقریباً تیس صحابہ سے منقول ہیں۔ جمہور سلف اور خلف اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ کو حالت بیداری میں معراج شریف ہوئی۔ نثر الطیب میں ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی اور مسلمات ضروریہ سے ہے علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔

فالحق انه اسراء واحد بروحه و جسده يقظة۔ (مواب)

فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ معراج شریف روح اور جسد کے ساتھ حالت بیداری میں ہوئی۔

سفر معراج کا آغاز۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

سبحن الذی اسرای بعبدہ لیلاً سے انه هو السميع العليم۔ (بنی

اسرائیل آیت نمبر 1)

ترجمہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک

جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا تا کہ ہم ان کو اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھلائیں
وہی سننے والا دیکھنے والا۔

آیت کریمہ میں بعدہ کا ذکر آیا ہے۔ عبد جسم اور روح دونوں کو کہتے ہیں۔
مواہب اللدنیہ میں ہے۔

ان العبد اسم للجسد والروح فوجب ان يكون الاسراء
بجميع الجسد والروح ويدل عليه قوله تعالى ارايت الذي
ينهى عبدا اذا صلى وانه لما قام عبد الله يدعوه والمراد
مجموع الروح والجسد۔ (مواہب)

فرماتے ہیں عبد روح مع الجسم کا نام ہے پس واجب (لازم) ہے کہ معراج شریف بھی
روح اور جسد کے ساتھ ہو جیسا کہ قرآن کریم کی تحریر کردہ آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ
عبد سے مراد روح مع الجسد ہے۔

مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک

اس عنوان سے متعلقہ اکثر روایات علامہ قسطلانی کی کتاب مواہب اللدنیہ سے ہیں۔

مکہ مکرمہ سے روانگی۔ جب آپ ﷺ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ

ہوئے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں۔ او تبت با البراق۔ میرے لئے براق لایا گیا

(جسکی برق رفتاری کا یہ عالم تھا) يقع حافره عند منتهى طرفه فر کتبہ

حتى (اتبت بیت المقدس)۔

جو اپنی منہجائے نظر پر قدم رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ حتی کہ بیت المقدس آیا۔ (مسلم)

(مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ چالیس منزل یعنی سوا مہینہ سے زیادہ کی راہ ہے) مواہب اللدنیہ میں ہے۔

ترجمہ۔ (براق پر سوار ہونے کے وقت) حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی (یاد رہے یہ دونوں فرشتے آپ ﷺ کی آسمانی وزیر ہیں)

نوافل سے شرف۔ بیت المقدس جاتے ہوئے تین مقامات پر نوافل پڑھ کر ان کو شرف سے نوازا (مواہب میں ہے)

ترجمہ۔ معراج شریف کی رات آپ کا پہلا گزرا ایک ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا۔ انزل فصل۔ فصلی۔ کہ آپ اتر کر یہاں نماز (نفل پڑھئے) آپ ﷺ نے نفل پڑھے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے یثرب (مدینہ شریف) میں نماز پڑھی۔ (سبحان اللہ)

پھر آپ ﷺ کا گزرا ایک سفید زمین پر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا انزل فصل فصلی آپ ﷺ اتر کر یہاں نماز (نفل) پڑھیں۔ آپ ﷺ نے نفل پڑھے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ آپ نے مدین میں نماز پڑھی پھر بیت اللحم پر گزر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ اتریں اور نماز پڑھیں آپ ﷺ نے نفل پڑھے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ (طبرانی۔ مواہب۔ صحیح البہیقی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گذر۔ 1۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گذر اسرح ٹیلہ کے پاس وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ (مسلم)

2۔ حضرت ابو یعلیٰ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم ﷺ (معراج شریف کی رات) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے

گذرے اور وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ کہ آپ رسول اللہ ہیں۔

3۔ مواہب اللدنیہ جلد دوم میں ہے۔

کہ (حضور ﷺ) موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گذرے وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اسمیں کوئی ممانعت نہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ اور رزق پاتے ہیں۔ (مواہب) زرقانی میں ہے۔

والصلوٰۃ تستدعی جسدا حیا۔ (زرقانی)

ترجمہ: نماز کے لیے زندہ جسم کا ہونا ضروری ہے۔

امام الانبیاء ہونے کا اعزاز: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے حضور ﷺ نے فرمایا۔ کہ میں بیت المقدس کے پاس آیا۔ اور اپنی سواری کو ایک حلقہ کے ساتھ باندھ دیا جہاں انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ (مسلم)

2۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں مسجد میں گیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو میں نے پہچانا کوئی قیام میں ہے۔ کوئی رکوع میں ہیں کوئی سجدہ میں پھر ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور ہم صفوف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ کہ کون امامت کرتے ہیں۔

سو جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا۔ اور میں نے سب کو نماز پڑھائی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس رات حضور ﷺ کو معراج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے تمام انبیاء علیہ السلام کو اٹھایا اور بیت المقدس میں اکٹھا کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان اور پھر امامت کہی۔ اور عرض

کیا کہ اے محمد ﷺ آگے بڑھیے اور انبیاء علیہ السلام کرام کو نماز پڑھائیے۔ (تفسیر خازن)

ایک روایت میں ہے کہ پھر ایک موذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئی۔ ہم سب منتظر تھے۔ کہ

کون امام بنے سو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر مجھے آگے کھڑا کر دیا میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ (تفسیر ابن حاتم)

حضور ﷺ کی شریعت کے مطابق نماز:۔ شب معراج تمام انبیاء کرام علیہ

السلام کا بیت المقدس میں مجتمع ہو کر حضور ﷺ فخر کائنات کی امامت میں حضور ﷺ کی شریعت کے مطابق نماز ادا کرنا اسی بلند مرتبت عہد کی عملی توثیق تھی۔ اور امام الانبیاء والمرسلین کی عظمت شان اور جلالت قدر کا صحیح اندازہ قیامت کے روز ہوگا جب ساری مخلوق خوف خدا سے لرزہ بر اندام ہوگی اور مصطفیٰ علیہ التحسین والثناء لو احمد ہاتھ میں لیے مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ اللهم صل علی حبیبك و صفيك صاحب لواء الحمد والمقام المحمود و بارک وسلم۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کی افتاء میں نماز پڑھنے والوں کی سات صفیں تھیں۔ تین صفیں رسولوں کی اور چار صفیں نبیوں کی تھیں۔ آپ ﷺ کی پشت مبارک کے بالکل پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے ان کی دائیں جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بائیں جانب حضرت اسحاق علیہ السلام کھڑے تھے۔ پھر باقی رسول علیہم السلام تھے۔ آپ ﷺ نے (امامت کر کے) دو رکعت نماز پڑھائی۔ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے۔ تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھے وحی کی ہے۔ کہ آپ حضرات سے توحید کے بارے میں سوال کروں۔

آپ بھی توجہ فرمائیں (موضوع سے ہٹ کر مندرجہ بالا واقعہ کی روشنی میں)

علامہ الشیخ حسن بن عمار رحمۃ اللہ علیہ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں۔ جو مقتدی امام کے محاذ میں سیدھا پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اسے سو نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو اس کے دائیں جانب ہو اسکو پچتر نمازوں کا ثواب ہے اور جو مقتدی (امام کے محاذ میں کھڑے ہونے

والے مقتدی کے) بائیں جانب ہوتا ہے۔ اس کو پچاس نمازوں کا ثواب۔ اور بقایا جو مقتدی ساری صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو پچیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔
 دوسری روایت میں نقل کرتے ہیں۔ (باجماعت نماز پڑھنے کی صورت میں) رحمت الہی کا نزول اولاً امام پر ہوتا ہے۔ پھر اس مقتدی پر جو امام کے سیدھا پیچھے کھڑا ہوتا ہے پھر دائیں جانب والوں پر اور پھر بائیں جانب والوں پر۔ (مراتی الفلاح)

انبیاء علیہ السلام کے خطابات (معراج شریف کے موقع پر)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب:۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جس نے مجھ کو ظلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو مقتدا صاحب قنوت بنایا کہ میرا اقتدا کیا جاتا ہے اور مجھ کو آتش (نمرودی) سے نجات دی اور اسکو میرے حق میں خنک اور سلامتی کا ذریعہ بنا دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب:۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب پر ثناء کر کے یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جس نے مجھ سے کلام (خاص) فرمایا اور مجھ کو برگزیدہ فرمایا اور مجھ پر تورات نازل فرمائی اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت کو ایسی قوم بنایا کہ حق کے موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق عدل کرتے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کا خطاب:۔ پھر داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثناء کر کے یہ تقریر کی کہ جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو زبور کا علم دیا اور میرے لئے لوہے کو نرم کیا اور میرے لئے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پرندوں کو بھی (تسبیح کے لئے مسخر فرمایا) اور مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب:۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے

اپنے رب کی ثناء کے بعد یہ تقریر کی کہ جمیع محامد ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے میرے لئے ہوا کو مسخر فرمایا اور شیاطین کو بھی مسخر کیا کہ جو چیز میں چاہتا ہوں وہ بناتے تھے جیسے عمارات عالی شان اور مجسم تصاویر (کہ اس وقت درست تھیں) اور مجھ کو پرندوں کی بولی کا علم دیا اور اپنے فضل سے مجھ کو ہر قسم کی چیز دی اور میرے لئے شیاطین اور انسان اور جن اور طیر کے لشکروں کو مسخر کیا اور مجھ کو ایسی سلطنت بخشی کہ میرے بعد کسی کے لیے شایاں نہ ہوگی اور میرے لئے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس کے متعلق مجھ سے کچھ حساب ہی نہ ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب:۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب

پر ثناء کر کے یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ کو اپنا کلمہ بنایا اور مجھ کو مشابہ آدم (علیہ السلام) کے بنایا کہ ان کو مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ تو (ذی روح) ہو جا اور وہ (ذی روح) ہو گیا اور مجھ کو لکھنا اور حکمت اور توراہ و انجیل کا علم دیا اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندہ کی شکل کا قالب بنا کر اس میں پھونک مار دیتا تھا تو وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں بجکم خدا مادر زاد اندھے اور جذامی کو اچھا کر دیتا تھا اور مردوں کو زندہ کر دیتا تھا اور مجھ کو پاک کیا اور مجھ کو اور میری والدہ کو شیطان رجیم سے پناہ دی سو ہم پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا تھا۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب:۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ثناء

کی اور فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب کی ثناء کی اور میں بھی اپنے رب کی ثناء کرتا ہوں۔ جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جس نے مجھ کو رحمتہ للعالمین اور تمام لوگوں کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر (دینی ضروری) امر کا بیان ہے (خواہ صریحہ خواہ اشارۃ) اور میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے نفع (دین

(کے لئے پیدا کی گئی ہے اور میری امت کو امت عادلہ بنایا اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہیں (یعنی رتبہ میں) اور آخر بھی ہیں (یعنی زمانہ میں) اور میرے سینہ کو فراخ فرمایا اور میرا بار مجھ سے ہلکا کیا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا (یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے (سب سے خطاب کر کے) فرمایا کہ بس ان کمالات کے سبب محمد ﷺ تم سب سے فائق ہو گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آخری فیصلہ :- حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ

عنه کی روایت میں ہے تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد اپنے اپنے فضائل بیان کئے جب حضور ﷺ کے خطبہ کی نوبت آئی جس میں آپ ﷺ نے اپنا رحمتہ للعالمین ہونا اور مبعوث الیٰ کافۃ الناس ہونا اور اپنی امت کا خیر الامم و امتہ وسط ہونا اور اپنا خاتم النبیین ہونا بھی بیان فرمایا اس کو سن کر ابراہیم علیہ السلام نے سب انبیاء علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ بھدا فضلکم محمد ﷺ یعنی ان ہی فضائل سے محمد ﷺ تم سب سے بڑھ گئے اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد بزرگ اور حاکم نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (کذافی المواہب نشر الطیب)

معراج شریف کا مختصر مگر جامع واقعہ

صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔
معراج شریف نبی کریم ﷺ کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور اس سے حضور کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں نبوت کے بارہویں سال سید عالم ﷺ معراج سے نوازے گئے مہینہ میں اختلاف ہے مگر شہر یہ ہے کہ ستائیسویں رجب کو معراج ہوئی مکہ مکرمہ سے حضور ﷺ کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصہ میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے اس کا منکر کافر ہے اور آسمانوں

کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تو اتر کے قریب پہنچ گئی ہیں اسکا منکر گمراہ ہے معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول ﷺ کی کثیر جماعتیں اور حضور ﷺ کے اجلہ اصحاب اسی کے معتقد ہیں نصوص آیات و احادیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے تیرہ دماغان فلسفہ کے اوہام فاسدہ محض باطل ہیں قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا براق لیکر حاضر ہونا سید عالم ﷺ کو غایت اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا بیت المقدس میں سید عالم ﷺ کا انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمانا پھر وہاں سے سیر سموت کی طرف متوجہ ہونا جبرائیل امین کا ہر ہر آسمان کا دروازہ کھلوانا ہر ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہم السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا اور حضور ﷺ کی تکریم کرنا احترام بجالانا تشریف آوری کی مبارک بادیں دینا حضور ﷺ کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا وہاں کے عجائب دیکھنا اور تمام مقربین کی نہایت منازل سدرۃ المنتہی کو پہنچنا جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں جبریل امین کا وہاں معذرت کر کے رہ جانا پھر مقام قرب خاص میں حضور ﷺ کا ترقیاں فرمانا اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام و افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں وہاں مورد رحمت و کرم ہونا اور انعامات الہیہ اور خصائص نعم سے سرفراز فرمایا جانا اور ملکوت سموت و ارض اور ان سے افضل و برتر علوم پانا اور امت کے لیے نمازیں فرض ہونا حضور ﷺ کا شفاعت فرمانا جنت و دوزخ کی سیر اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا اور اس واقعہ کی خبریں دینا کفار کا اس پر شور میں مچانا اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور ﷺ سے دریافت کرنا حضور ﷺ کا سب کچھ بتانا اور قافلوں کے جو احوال حضور ﷺ نے بتائے قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا یہ تمام صحاح کی معتبر احادیث

سے ثابت ہے اور بکثرت احادیث ان تمام امور کے بیان اور ان کی تفصیل سے مملو ہیں۔

شب معراج کی عظمت:۔ شب معراج میں آپ ﷺ کو دیگر اعزاز و اکرام کے علاوہ

رؤیت باری تعالیٰ کا خصوصی اعزاز اور شرف بھی حاصل ہوا۔ اس لئے شب معراج آپ ﷺ کے حق میں باقی راتوں سے افضل ہے۔ اور آپ ﷺ کی امت کے حق میں لیلۃ القدر ساری راتوں سے افضل ہے۔

علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ (مواہب اللدنیہ میں ہے) جلد دوم

ان لیلۃ الاسراء افضل فی حق النبی ﷺ و لیلۃ القدر افضل فی حق الامۃ۔

ترجمہ۔ تحقیق شب معراج حضور ﷺ کے حق میں اور لیلۃ القدر امت کے حق میں افضل ہے۔

موسیٰ سے ملاقات:۔ قرآن پاک کی روشنی میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فلاتکن فی مریۃ من لقائه۔ ۲۳۔ السجدۃ

(اے میرے محبوب) تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو۔

آپ ﷺ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے اور ان سے ملاقات ہونے میں شک نہ کرو

۔ چنانچہ شب معراج میں حضور ﷺ کی ملاقات ہوئی۔ جیسا کہ احادیث میں وارد ہے

۔ (خزائن العرفان)

حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

ترجمہ۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کے بارے میں شک نہ کریں۔

پیشک آپ ان کو دیکھیں گے اور ان سے ملاقات ہوگی۔ (تفسیر کبیر)

امام واحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

مفسرین حضرات کا بیان ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عنقریب

آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوگی چنانچہ آپ کی یہ ملاقات آسمان پر بھی ہوئی اور بیت المقدس میں بھی ہوئی جب آپ معراج پر گئے۔ (فتح القدر)

حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

اے محمد ﷺ آپ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں شک نہ کریں (چنانچہ) معراج کی شب آپ ﷺ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ (قرطبی)

علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں کرتے ہیں۔ بے شک نبی کریم ﷺ نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں

لقاء سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لقاء ہے۔ (روح المعانی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلا تکن فی مرية من لقائه میں لقاء سے مراد یہ ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ اور معراج کی شب ان سے ملاقات کی۔ (ابن کثیر)

حیات الانبیاء حدیث پاک کی روشنی میں

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ الانبیاء احياء فی قبورهم یصلون۔

1۔ ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ کہ

میں معراج کی شب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گذرا۔ سرخ ٹیلے کے پاس وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ (مسلم)

2۔ اسی طرح ابو یعلیٰ موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گذرے اور وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (زرقانی)

3۔ حلیہ مبارک: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ حضور ﷺ نے فرمایا (معراج شریف کے موقع پر) میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ چست آدمی ہیں۔ اور قبیلہ شنوہ کے آدمی معلوم ہو رہے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑے نماز پڑھتے دیکھا۔

حضرت عمرو بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حلیہ بہت ملتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے نماز پڑھتے دیکھا ان کا حلیہ میرے حلیے سے بہت ملتا ہے۔ پھر نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کی۔ (مسلم)

قبر شریف سے اذان اور اقامت کی آواز

حضرت سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہ حرہ کا واقعہ پیش آیا تو حضور ﷺ کی مسجد میں تین دن اذان اور اقامت نہ کہی گئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہی رہے آپ کو نماز کے وقت کا پتہ نہ چلتا تھا مگر خفی آواز سے کہ اس کو (حضور ﷺ کی) قبر انور سے سنتے تھے۔ (دارمی کذافی المشکوٰۃ)

اعزازیہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو
افلاک پہ تو گنبد خضریٰ نہیں کوئی

حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ (ایام حرہ کے دنوں میں) میرے سوا مسجد نبوی میں کوئی نہیں تھا۔ نماز کا کوئی بھی وقت نہیں آتا تھا مگر قبر انور سے اذان اور اقامت کی آواز سنتا تھا۔ پھر میں نماز پڑھتا تھا۔ (ابو نعیم)
علامہ تقی الدین سبکی نقل فرماتے ہیں۔

1۔ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا۔ تو میں قبر شریف سے اذان کی آواز سنتا تھا۔

2۔ حضور ﷺ زندہ ہیں۔ اور آپ قبر شریف میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔

3۔ والصلوة تستدعی جسدا حياء۔

ترجمہ: نماز زندہ وجود کو چاہتی ہے۔ (زرقانی)

نسیم الریاض میں ہے:۔ عن ابی عمر رضی اللہ عنہ قال النبی ﷺ من زارنی

بعد موتی فکانما زارنی فی حیاتی۔ (الحديث) لانه ﷺ حی فی

قبره ویلیری بمن یزور ویرد سلامه۔ (نسیم الریاض ج ۳ صفحہ ۵۱۲)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ جس شخص نے موت کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے زندگی میں زیارت کی۔

شراح رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔ کہ حدیث پاک میں اس بات کی دلیل ہے

کہ آپ ﷺ قبر شریف میں زندہ ہیں جو شخص زیارت کرتا ہے اس کو جانتے ہیں۔ اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ (سبحان اللہ)

حضرت سلیمان بن جیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ عرض کیا یا

سول اللہ ﷺ یہ لوگ جو آپ کی زیارت کے لیے (قبر شریف پر) حاضر ہوتے ہیں اور آپ

کو سلام عرض کرتے ہیں کیا آپ ان کے سلام سمجھتے ہیں؟

قال نعم وارد علیہم: آپ ﷺ نے فرمایا۔ ہاں (میں انکے سلام کو سمجھتا ہوں) اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ (نسیم الریاض)

حضرت امام محی الدین تکی بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۶۳۱ھ کیا خوب لکھتے ہیں۔
اس پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ باوجود اس کے کہ وہ اموات ہیں اور دار آخرت میں ہیں اور وہ حج کیسے کرتے ہیں۔ اس کے کئی جواب ہیں ایک جواب یہ ہے۔ کہ انبیاء علیہ السلام (شہداء کرام) کی طرح ہیں۔
نہیں بلکہ ان سے بھی افضل ہیں اور شہداء کرام اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں۔
لہذا ان کا حج کرنا اور تلبیہ کہنا کوئی بعید بات نہیں۔ کہ ان سے جس طرح بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔

مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

”کہ نبی ﷺ زندہ ہیں آپ امت کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں اور نافرمانیوں سے غمگین۔ انبیاء کا مرجانا صرف ایسا ہے کہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ ورنہ فی الواقعہ وہ زندہ ہیں اور فرشتوں کی طرح موجود ہیں۔ یعنی جس طرح فرشتے موجود ہیں اور نظر نہیں آتے اسی طرح انبیاء کا حال ہے وہ موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ ہاں اہل اللہ کو نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے دیدار کر دیتا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں۔

”میں نے اکثر کاموں میں دیکھا کہ آنحضرت ﷺ کی اصل صورت میرے سامنے بار بار ہوتی ہے تو میں نے جان لیا۔ کہ آپ کے روح کو طاقت ہے کہ بشکل جسم مبارک بن جائے اور یہ وہی بات ہے کہ جس کی طرف حضور ﷺ نے اشارہ کیا کہ پیغمبر نہیں مرتے بیشک وہ قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔“

حضرت امام الشیخ حسن بن عمار بن علی الشرنبلانی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

یہ بات محققین کے نزدیک مقرر اور ثابت ہے کہ حضور ﷺ زندہ ہیں رزق دیئے جاتے ہیں اور تمام عبادات سے نفع اندوز ہوتے ہیں۔ سوائے اس بات کے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ علامہ موصوف آگے چل کر زیارت النبی ﷺ کا مسئلہ اور طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ کہ زیارت کرنے والا نہایت ادب اور احترام سے روضہ اقدس سے چار گز کے فاصلے پر قبلہ شریف کی طرف پشت کر کے حضور ﷺ کے سر مبارک کے سامنے کھڑا ہو۔ اور خیال رکھے کہ حضور ﷺ اپنی نظر شریف سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور میرا کلام سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اور میری دعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ (مراقی الفلاح) علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

ترجمہ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی حیات (عالم برزخ میں) ثابت ہے۔ دائمی ہے اور ہمارے نبی ﷺ ان سب سے افضل ہیں مناسب حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ کی حیات بھی ان سب انبیاء علیہم السلام سے اتم اور اکمل ہے۔ (مواہب) علامہ سید نور الدین علی بن جمال الدین المعروف بہ سید سمہودی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔ محققین متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ حضور ﷺ اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور امت کے نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں۔ (وفاء الوفاء)

علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

انبیاء علیہ السلام اور شہداء کرام قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح وہ دنیا میں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ نماز کے لیے زندہ جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح معراج کے بیان میں جو صفات انبیاء علیہ السلام کی بیان کی گئی ہیں۔ وہ سب کی سب اجسام کی صفات ہیں۔ (حیات جاوداں)

اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے

میں) کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کو گھائی سے اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور گڑ گڑاتے ہوئے تلبیہ (حج کرنے کے لیے) کہہ رہے ہیں۔

حضرت ابوالابراہیم بن اسماعیل بن محمد البخاری تحریر فرماتے ہیں۔

ترجمہ: لہذا تمام مخلوق کے لئے موت کا آنا ضروری ہے تاکہ نفس سے بے نفس ہو جائیں آنحضرت ﷺ چونکہ زندگی ہی میں اپنے نفس سے بے نفس ہو چکے تھے جب موت آئی تو آپ ﷺ کی حالت یہ تھی کہ موت سے پہلے ہی اس مقام ہر پہنچ چکے تھے لہذا جب موت آئی تو موت کے بعد ان کی وہی حالت تھی جو موت سے پہلے تھی چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کی ازواج کے لیے عدت نہ تھی۔ اگر آپ ﷺ کی موت اوروں کی طرح ہوتی تو آپ ﷺ کی ازواج پر بھی وہی احکام جاری ہوتے جو اوروں کی ازواج پر ہوتے ہیں نیز یہ کہ اگر آپ ﷺ کی موت اوروں کی طرح ہوتی تو وفات کے بعد رسالت کا ثابت کرنا محال ہوتا کیونکہ مردہ رسول کیسے ہو سکتا ہے اس لئے قیامت کے دن تک یوں کہنے کا حکم آیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یوں

کہنے کا حکم نہیں آیا۔ و اشہد انہ کان محمد رسول اللہ لہذا ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کی موت حیات ہے اور چونکہ امت کے اعمال نامے قبر میں آپ ﷺ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں اور نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور بد اعمال پر آپ کو افسوس ہوتا ہے اور آپ ﷺ ان کے لئے استغفار کرتے ہیں لہذا یہاں سے ثابت ہوا کہ آپ ﷺ کی موت حیات ہے۔ (حیات جاوداں)

صاحب مرقاۃ لکھتے ہیں۔ لا عدۃ علیہن لانہ ﷺ حی فی قبرہ و

کذالك سائر الانبياء۔

حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کے لیے عدت نہیں کیونکہ آپ ﷺ اپنی قبر شریف میں زندہ

ہیں اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام۔ (مرقاۃ)

صاحب فتح الملہم لکھتے ہیں۔ قال علمائنا والدلیل علی عدم شرعیہ الصلوۃ علی القبر ترک الناس عن آخرہم الصلوۃ علی قبر النبی ﷺ وهو حی فی قبر الشریف۔ اہل سنت کے علماء کرام کا فیصلہ ہے کہ ابتداء سے آخر تک لوگوں کا آپ ﷺ کی قبر پر جنازہ نہ پڑھنے اور اسکے مشروع نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور زندہ کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ تفسیر روح المعانی میں ہے۔

قال بعد نقل احادیث و آثار مانصبہ فحصل من مجموع هذا الكلام والنقول والاحادیث ان النبی ﷺ حی بجسده و روحہ یتصرف و یسیر حیث شاء فی اقطار الارض و فی الملكوت وهو بهیئہ التي كان علیها قبل وفاته لم یتبدل منه شیئی وانه مغیب عن الابصار كما غیبت الملائکة مع کونهم احياء باجسادهم فاذا اراد الله تعالی رفع الحجاب عن اراده اکرامه برویة راه علی ہیئته التي هو علیہ الصلوۃ والسلام علیها لا مانع من ذلك۔ (روح المعانی)

ترجمہ: بعد آثار منصوصہ کے مجموعہ ان نقول اور احادیث سے ثابت ہوا کہ حضور جسد اور روحاً زندہ ہیں اقطار الارض میں جہاں چاہیں سیر تصرف رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح عالم ملکوت میں بھی آپ ﷺ اپنی اسی ہیئت پر ہیں جو موت سے قبل تھی اس میں کسی قسم کا تغیر و

تبدل نہیں ہاں صرف اتنی بات ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں جیسا کہ فرشتے اپنی حالت اصلی سے زندہ ہیں اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس شخص کو حضور ﷺ کی زیارت کرانا چاہتے ہیں۔ تو حجابات اٹھا دیتے ہیں تو وہ شخص حضور ﷺ کو اپنی اصلی صورت میں دیکھتا ہے اور اس روایت میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔

تعدوا مثال

تعدد امثال

اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم پر روحانیت کے منازل طے کرتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کی روحانیت جسمانیت پر غالب آجاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کو تعدد امثال کی طاقت عطا فرمادیتے ہیں۔ تو ان کی روح متعدد مثالی صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

والسرفی ذالک ان روحانیتہم غلبت علی جسمانیتہم

فجاز ان یظہر فی صور کثیرة۔ (فتاویٰ الکبریٰ الفقہیہ)

فرماتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی روحانیت ان کی جسمانیت پر غالب آجاتی ہے تو روح کئی صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

از بعض اولیاء نقل مے کنند کہ در یک آن در امکان متعددہ حاضرے

گردند و افعال متباہنہ بوقوع می آرند اینجا نیز لطائف ایثاں مجتہد

باجساد مختلفہ اند و متشکل باشکال متباہنہ۔ (مکتوبات جلد دوم)

ترجمہ: اولیاء اللہ ایک گھڑی میں مختلف جگہوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے مختلف قسم کے کام صادر ہوتے ہیں پس یہ مسئلہ حل ہو گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے لطائف مختلف ابدان سے مجتہد اور مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتے ہیں۔

علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۱۲۹۱ھ تحریر فرماتے ہیں۔

ولا مانع ان يتعدد الجسم المثالی۔ (روح المعانی)

جسم مثالی کے تعدد میں کوئی امر مانع نہیں۔

علامہ عبدالرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

و كذلك ارواح الكمل كما يروى عن قضيب البان رحمة
الله عليه الموصلى انه كان يرى فى زمان واحد فى مجالس

متعددة مشتغلاً فى كل امر غير مافى الآخر۔ (درة الفاخرة)

فرماتے ہیں اسی طرح کاملین کے ارواح کے متعلق بیان کیا جاتا ہے جیسے قضیب البان الموصلى
رحمة اللہ علیہ کا واقعہ کہ لوگوں نے آپ کو ایک وقت میں کئی مختلف مقامات پر مختلف کاموں
میں مشغول پایا۔

صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں:۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نقل
فرماتے ہیں۔

والذى قاله المحققون الصوفيه ان الامر فى عالم البرزخ
والآخرة على خلاف عالم الدنيا۔

محققین صوفیاء کرام فرماتے ہیں۔ کہ عالم برزخ اور عالم آخرت کے امور عالم دنیا سے مختلف
ہیں ہر انسان ایک صورت میں نمود ہوتا ہے۔ ہاں اولیاء کرام کو مختلف صورتوں میں دیکھا گیا
ہے۔ جیسے قضیب البان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ (فتاویٰ الکبریٰ)

قضیب البان موصلى رحمۃ اللہ علیہ کہ انکی شکل میں ستر آدمی نظر آتے تھے حتیٰ کہ وہ چلتے
پھرتے تھے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی روحانیت انکی جسمانیت پر غالب آجاتی
ہے اور روح کئی صورتوں میں ظہور کرتا ہے۔ یہ مثالی صورتیں ہوتی ہیں۔

ابدال:۔ علامہ یوسف بن اسماعیل بنہانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں ابدال کو ابدال اس
لئے کہتے ہیں کہ جب وہ سفر کرتا ہے۔ تو اپنا قائم مقام اپنی صورت میں ایک شخص کو چھوڑ

جاتا ہے۔ (جوہر البحار)

قارئین کرام! یہ شان اور مقام تو ابدال کا ہے۔ انبیاء کی شان تو اس سے کہیں بلند ہے۔

ابدال کی شان

حدیث پاک: حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل شام کا ذکر کیا گیا۔ اور کہا گیا کہ اے امیر المؤمنین ان پر (اہل شام) لعنت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ فرماتے تھے ابدال شام میں ہونگے۔ وہ چالیس آدمی ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی جگہ اور آدمی اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں انکی برکت سے بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ اور اہل شام سے ان کی وجہ سے عذاب ٹال دیا جاتا ہے۔ (احمد کذافی المشکوٰۃ)

حدیث پاک: ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ ابدال شام میں ہوتے ہیں اور وہ چالیس مرد ہیں انکے سبب سے تمہیں بارش دی جاتی ہے۔ اور ان کی وجہ سے دشمنوں پر تمہیں فتح دی جاتی ہے اور ان کے سبب سے اہل زمین سے نکالیف اور مصائب دور کئے جاتے ہیں۔

دیگر برگزیدہ ہستیاں: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کنعانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں یوں روایت کیا ہے فرماتے ہیں۔ نقباء کا مسکن مغرب میں نجباء کا مصر میں ابدال کا مسکن شام ہے اختیار سیاح ہوتے ہیں قطب زمین کے گوشوں میں ہوتے ہیں جب مخلوق کو عوامی مصیبت آجائے۔ تو دعا کے لیے نقباء ہاتھ اٹھاتے ہیں اگر قبول نہ ہو تو نجباء پھر اختیار پھر قطب اگر پھر بھی قبول نہ ہو تو غوث دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی دعا قبول ہو

جاتی ہے۔ کنعانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی روایت ہے کہ نقباء تین سو نجباء ستر ابدال چالیس اخبار
سات قطب چار اور غوث ایک ہے۔

شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال حاضری (روحانی و جسمانی)

حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۸۷۵ھ صوفیاء کبار سے ہیں آپ ۵۵۵ھ میں حج
بیت اللہ کے لیے حجاز مقدس تشریف لے گئے حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں
روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ آپ کی بے مثال حاضری نے کئی مسائل حل کر دیئے۔ اہل
سنت و الجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ ﷺ اپنے مزار اقدس میں حیات دنیوی
حسی کے ساتھ زندہ ہیں حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری کے موقع پر آپ کے
خطاب سے مسئلہ حیات النبی ﷺ کی تائید ہوتی ہے۔
آپ نے یوں مخاطب ہو کر سلام عرض کیا۔

السلام عليك يا جدی۔

ترجمہ: اے نانا جان میری طرف سے سلام قبول ہو۔

روضہ اقدس قبر انور سے آواز آئی۔ و عليك السلام یا ولدی۔

بیٹے میری طرف سے بھی سلام ہو۔

پھر آپ نے روضہ مقدسہ کے سامنے کھڑے ہوئے دو شعر پڑھے۔ جن سے روحانی اور
جسمانی حاضری کے مسئلے بھی حل ہوئے اور آپ کی کرامت بھی ظاہر ہوئی۔

روحانی حاضری: پہلا شعر

فی حالة البعد روحی كنت ارسلها

تقبل الارض عنی وہی نائبتی

ترجمہ۔ جسمانی دوری کے وقت (روضہ اقدس پر) حاضری کے لیے میں اپنی روح کو نیابت کے لیے بھیجا کرتا تھا جو میری طرف سے زمین بوسی کا شرف حاصل کرتی تھی۔

جسمانی حاضری:- دوسرا شعر

وهذه دولة الاشباح قد حضرت

فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي

ترجمہ۔ اب جبکہ جسمانی حاضری نصیب ہوئی۔ (یا رسول اللہ ﷺ)

اپنی قبر انور سے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیں تاکہ میرے ہونٹوں کو بوسہ دینے کا شرف حاصل ہو۔

چنانچہ آپ ﷺ نے قبر انور سے دست مبارک نکالا۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ

علیہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ اس وقت روضہ اقدس پر لوگوں کا جم غفیر (ہجوم) تھا

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عدی بن مسافر اموی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد

الرزاق حسینی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ تمام حاضرین نے اس واقعہ کو دیکھا۔ (مشارق

الانوار، جواہر البحار)

حضرت مولانا عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں اس واقعہ کو نقل

کرنے کے بعد یوں متنبہ فرماتے ہیں۔ اس کا انکار نہیں کرنا چاہے کیونکہ انکار کا انجام سوء

خاتمہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ پناہ میں رکھے اور اس میں شک نہیں۔

کہ اولیاء کرام کی کرامت حق ہے۔ (نزہۃ المجالس)

جسے چاہا در پہ بلا لیا جیسے چاہا اپنا بنا لیا

یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کیا خوب فرماتے ہیں

ترجمہ: جب کہ جنات کو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ قدرت ہے کہ مختلف شکلوں میں متشکل

ہو کر عجیب و غریب کام ان سے صادر ہوتے ہیں تو کاملین کی روحوں کو اگر یہ قدرت اللہ کی جانب سے دی گئی ہو تو اس میں کیا تعجب اور پھر اس میں دوسرے بدن کی کیا ضرورت رہتی ہے تو اب یہ مسئلہ کہ بعض اولیاء اللہ ایک گھڑی میں مختلف جگہوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے مختلف قسم کے کام صادر ہوتے ہیں پس یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کے لطائف مختلف ابدان سے مجسم اور مختلف شکلوں سے متشکل ہو جاتے ہیں۔“ (مکتوبات جلد دوم۔ نجم الہدیٰ) امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

ثم ان هذه الا رواح الشریفه العالیة لا یبعدان یكون فیها
یکون بقوتها شرفها یظهر منها آثار فی احوال هذا العالم
فهی المدبرات امرأ۔

ترجمہ: پھر یہ ارواح شریفہ دور نہیں کہ ان میں عوہ قوت اور وہ شرف ہو کہ جس کے آثار اس جہان کے احوال میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مدبرات امرأ سے یہی مراد ہے۔ (تفسیر کبیر، نجم الہدیٰ)

☆۔ عن عتبة بن غزوان عن نبی اللہ ﷺ قال: اذا اضل
احدکم شیاء او اراد احدکم عوناً و هو بارض لیس بها
انیس فلیقل یا عباد اللہ اغیثونی یا عباد اللہ اغیثونی فان للہ
عبادا لا نراهم وقد جرب ذلك۔ (رواہ الطبرانی)

”حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی کوئی شے گم ہو جائے تم میں سے کوئی مدد چاہے اور وہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں اسکا کوئی مددگار بھی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کہے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہیں جنہیں ہم دیکھتے تو نہیں

سکتے (لیکن وہ لوگوں کی مدد کرنے پر مامور ہیں) اور یہ آزمودہ بات ہے۔“

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کسی کی سواری جنگل بیاباں میں چھوٹ جائے تو اس (شخص) کو (یہ) پکارنا چاہیے: اے اللہ کے بندو! میری سواری پکڑادو، اے اللہ کے بندو! میری سواری پکڑا دو کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے (ایسے) بندے اس زمین میں ہوتے ہیں، وہ تم کو (تمہاری سواری) پکڑادیں گے۔ (رواہ الطبرانی و ابویعلیٰ)

قارئین کرام! اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مخلوق کی امداد کرنیکی طاقت بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا کردہ ہوتی ہے (اغیثونی یا عباد اللہ) لہذا ان کی امداد بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی امداد ہوتی ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود
گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

☆☆☆

انبیاء علیہم السلام اور تعدد امثال

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کو تعدد امثال کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ارواح مبارکہ کے لیے تعدد امثال کے انکار کا کوئی جواز نہیں۔ علامہ یوسف بیہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

جب ابدال کی یہ شان ہے کہ وہ سفر کرتے وقت اپنی صورت پر اپنا قائم مقام چھوڑ جاتا ہے تو (انبیاء علیہ السلام اور) آپ ﷺ سے اس کا ظہور کیسے ممکن نہیں۔ (جو اہر البحار) علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔

و حلولہم فی اوقات مختلفہ فی اماکن متعدده جائزۃ عقلاً

کما ورد به خبر الصادق۔ (حاشیہ مشکوٰۃ)

ترجمہ۔ انبیاء علیہم السلام کے (ارواح طیبہ) کا مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر موجود ہونا عقلاً (ونقلاً) جائز ہے۔ جیسا کہ اس بارے میں خبر صادق وارد ہے۔

بزرگان دین نے لکھا ہے کہ عارفین کو ذات کریمہ کی زیارت ہوتی ہے اور غیر عارفین کو صورت مثالیہ سے زیارت ہوتی ہے۔

حدیث پاک: حضرت سلمیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر داخل ہوا۔ وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا تم کیوں روتی ہو۔ کہنے لگیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ ﷺ کا سر اور داڑھی مبارک غبار آلود تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ آپ کو کیا ہوا ہے۔ فرمایا میں ابھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ میں حاضر ہوا تھا۔ (ترمذی کذابی المشکوٰۃ)

روح محمدی ﷺ نے کون اعلیٰ اور کون اسفل کو بھرا ہوا ہے

حضور اکرم ﷺ کے مقام اقدس کو اس مقام پر بیان کرتے ہوئے علماء کرام اور صوفیاء عظام نے اپنے اپنے مشاہدات اور حقائق کا اظہار ان الفاظ میں بیان کر کے حقیقت کا اظہار کیا ہے۔

علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے (صرف ترجمہ پر اکتفا کیا جاتا ہے)۔ حضور نبی کریم ﷺ کا روح مبارک جو تجرد اور تقدس کے لحاظ سے (دیگر) تمام ارواح سے اکمل ہے کئی صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود روح کا تعلق جسد عنصری کے ساتھ ہے۔ جو قبر انور میں زندہ ہے۔

جسد مثالی کے ساتھ بھی تعلق ہے جو لوگوں نے کئی مقامات پر دیکھا اور اسمیں کوئی شرعی یا عقلی دلیل مانع نہیں۔ (روح المعانی)

علامہ علی بن سلطان محمد القاری رحمۃ اللہ علیہ (المعروف ملا علی القاری) نقل کرتے ہیں۔

فاذا دخلتم بيوت فسلموا على اهلكم
ترجمہ: جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہو۔

قال ان لم يكن في البيت احد فقل
ترجمہ: اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو یوں کہو۔

السلام على النبي ورحمة الله وبركاته اي
ترجمہ: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته۔

لان روحه عليه السلام حاضرة في بيوت اهل الاسلام۔ (شرح شفاء
شريف) حاشیہ نسیم الرياض ج ۳ صفحہ ۴۶۴

ترجمہ: کیونکہ حضور ﷺ کا روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہوتا ہے۔۔

فائدہ:۔ علامہ شہاب الدین الخفاجی رحمۃ اللہ علیہ شفاء شریف کی شرح کرتے ہوئے

اس مقام پر تحریر کرتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ ﷺ
کے پاس ایک شخص آیا۔ اور آپ ﷺ سے فقر اور تنگی معاش کی شکایت کی۔

تو حضور ﷺ نے اسے فرمایا۔ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر جا کر سلام کہو چاہے گھر میں کوئی

موجود ہو یا نہ ہو۔ پھر مجھے سلام کہو پھر ایک بار قل هو اللہ احد الیٰ آخرہ یعنی سورۃ

اخلاص پڑھو اس شخص نے ایسا کیا پس اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق فراخ کر دیا۔ نسیم الرياض

ج ۳ صف ۴۶۴

علامہ حافظ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ یوں تحریر کرتے ہیں۔ (صرف ترجمہ پر

اکتفا کیا جاتا ہے)

ترجمہ۔ کوئی جگہ نہیں مگر اس میں حضور علیہ السلام کا نور موجود ہے پھر یہ نور ظاہر ہوتی ہے اسمیں

ذات حضور ﷺ کی جیسا کہ شیشہ میں چہرہ انسان کا نظر آتا ہے پس وہ نور بمنزلہ ایک شیشے کے ہوا جس نے سب جہان کو بھر دیا۔

اس میں منقش ایک ہی ذات ہے پس اس لیے ایک شخص حضور ﷺ کو مشرق میں دیکھتا ہے اور دوسرا مغرب میں ایک جنوب میں تو دوسرا شمال میں لا تعداد قوتیں ہے مختلف مکانوں میں ایک گھڑی میں یکساں دیکھتی ہیں اور لطف یہ ہے کہ ہر ایک شخص حضور ﷺ کو اپنے پاس دیکھتا ہے اور ان سب کی وجہ یہ ہے کہ وہ نور کریمہ جسمیں یہ ذات پاک منقش ہوتی ہے وہ ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ (ابریز شریف)

علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

وقالو ان الروح اذا كانت كلية كروح نبينا ﷺ ربما تظهر في سبعين

الف صورة وهم اصحاب كشف و الهام فيسلم لهم ماقلوه۔

ترجمہ: علماء نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے روح کی طرح جب روح تمام کمالات میں کلی ہو تو اکثر ستر ہزار صورتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہ سب کلی روح والے لوگ صوفیہ اصحاب کشف والہام ہیں پس ان کا معاملہ انہیں کو سونپ دو۔ (فتاویٰ الکبریٰ القہریہ)

علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔

انه رأى السماء و الارض و العرش و الكرسي مملوءة من

رسول الله ﷺ و ينحل به السؤال عن كيفية روية

المتعددین له عليه الصلوة والسلام في زمان واحد في اقطار

متباعدة۔ (روح المعانی)

فرماتے ہیں انہوں نے آسمان زمین عرش و کرسی کو دیکھا کہ وہ حضور ﷺ کی ذات (صور

پہچانتا ہے حضور ﷺ کو تو اپنے استاد عبد الرحیم القضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا۔ وہ تجھے سلوک کا راستہ سکھا دے حضرت ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو بیت المقدس کو جا۔ تاکہ تجھ پر یہ راز منکشف ہو جائے۔ پس میں بیت المقدس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے میری نظر کھول دی پس میں نے دیکھا حضور ﷺ کو کہ انہوں نے تمام آسمانوں اور زمین عرش کرسی اور تمام اقطار اور اکوان کو بھر دیا ہے۔ (نجم الہدی)

علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں (صرف ترجمہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے) یہ (مندرجہ ذیل) دلیل جو کہ معتبر سندوں سے حفاظ حدیث کے نزدیک ثابت ہے اور جمیع اہل معانی والا لفاظ کے نزدیک حضور ﷺ نے معراج کی رات اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر حضور ﷺ بیت المقدس کو گئے۔ وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور ﷺ کے پیچھے سب انبیاء علیہم السلام کی طرح نماز میں اقداء کی پھر حضور ﷺ ان سے جدا ہوئے جب آپ چوتھے آسمان کو پہنچے تو چوتھے یا چھٹے بنا بر اختلاف روایات موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ اور آپ نے آدم علیہ السلام کو آسمان اول پر دیکھا اور دوسرے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اور تیسرے میں یوسف علیہ السلام اور چوتھے میں ادریس علیہ السلام کو اور پانچویں میں ہارون علیہ السلام اور چھٹے میں موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مرتبہ ہے تو ہمارے حضور ﷺ کے لیے اپنی مزار پاک میں رہ کر ہر جگہ موجود ہونا زیادہ لائق اور احق و اصوب و اولیٰ ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام چوتھے یا چھٹے آسمان میں موجود تھے۔ حالانکہ ہمارے حضور ﷺ نے انہیں بیت المقدس میں چھوڑا تھا اور بیت المقدس کے آنے سے پہلے اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھ آئے تھے۔ پس ہمارے نبی ﷺ کی خصوصیت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام سے آپ نے خصوصی طور پر اپنے وجود پاک سے سب جہان کو نور سے بھر دیا (جہاں دیکھیں وہاں آپ

ﷺ نظر آتے ہیں) کیوں کہ ہمارے حضور ﷺ نے معراج کی رات وہ تقرب اور ترقی اللہ کے ساتھ حاصل کی جہاں ایک قدم چلنے کی بھی ملک مقرب اور نبی مرسل کو اجازت اور قدرت نہیں ہے اسی لئے تو سب فرشتوں کے سردار جبرائیلؑ معراج کی رات و ما منا الا له مقام معلوم پڑھ کر آپ سے رخصت طلب کی بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ اگر میں آگے چلوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام حضور ﷺ سے ساتویں آسمان سے رخصت ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام چوتھے اور چھٹے آسمان سے رخصت ہوئے (کیوں کہ یہ اپنی حد معین سے جبرائیل علیہ السلام کی طرح بڑھ نہیں سکتے تھے۔) (جو اہر البحار) نجم الہدی

حضرت علامہ محدث مناوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

ترجمہ۔ عارف لوگ حضور ﷺ کو بیداری کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ شیخ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر حضور ﷺ آنکھ جھپکنے کی دیر میں مجھ سے دور ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو فقراء میں شمار نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں نہیں سمجھتا۔ اور بعض عارفین اس نماز کو لوٹاتے تھے۔ جس میں حضور ﷺ کی شہود سے غفلت ہو جاتی تھی۔ اگر چہ سہواً۔ اور عارفین کا مقولہ ہے کہ جس شخص کو نماز میں شہود و حضور ﷺ کا نہ ہو اور حضور ﷺ کے ساتھ جس نماز میں مصافحہ نہ ہو وہ نماز ناقص ہے کیوں کہ صرف حضور ﷺ کی ذات بابرکات ہی ہے۔ جو عالمین کو کمال تک پہنچانے میں امداد کرتی ہے۔ اگر چہ یہ مقام مشکل ہے۔ اور اس کے قائل بھی تھوڑے ہیں۔ لیکن ہر وہ کام جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اسکے لئے آسان ہے پس جسے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل مقام پر پہنچنے کا اہل بنایا ہے اسکے لیے یہ بہت آسان امور میں ہے۔ (فیض القدر۔ نجم الہدی)

حضرت مجدد علیہ الرحمۃ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بیداری کے عالم میں اپنی ملاقات کا ذکر کیا ہے۔

مجدد صاحب کی حضرت الیاس علیہم السلام اور حضرت خضر علیہم السلام

سے ملاقات:- مجددرحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

احباب مدت سے حضرت خضر علیہم السلام کے احوال کی نسبت سے دیارفت کیا کرتے تھے چونکہ فقیر کو ان کے حال پر پوری پوری اطلاع نہ دی گئی تھی اس لئے جواب میں توقف کیا کرتا تھا آج صبح کے حلقہ میں دیکھا کہ حضرت الیاس علیہم السلام اور حضرت خضر علیہم السلام روحانیوں کی صورت میں حاضر ہوئے اور تلقینی روحانی یعنی روحانی ملاقات سے حضرت خضر علیہم السلام نے فرمایا کہ ہم عالم ارواح میں سے ہیں حق سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو ایسی قدرت کاملہ عطا فرمائی ہے کہ اجسام کی صورت میں متمثل ہو کر وہ کام جو جسموں سے وقوع میں آئیں یعنی جسمانی حرکات و سکنات اور جسدی طاعات و عبادات ہماری ارواح سے صادر ہوتی ہیں۔ (مکتوبات، حیات جاوداں)

ہمارے پیرومرشد پیر طریقت رہبر شریعت عالم باعمل جناب قبلہ حضرت زین الدین صاحب نور اللہ مرقدہ (ترگ شریف) اپنے عالمانہ محققانہ انداز میں تعدد امثال کا دو لفظوں میں فیصلہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ کہ حضور ﷺ کی صورت مبارکہ تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے اور ذات کریمہ ایک ہی جگہ پر رہتی ہے۔ تو تعدد امثال آیاتہ کہ تعدد ذات کریمہ۔ (نجم الہدیٰ) نظروں سے او جھل:-

حضور ﷺ حیات دنیاوی وحسی کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔

1۔ حضرت شیخ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ میں نے حضور ﷺ کی زیارت کی حضور ﷺ نے فرمایا۔ کہ میں مردہ نہیں ہوں۔ میری موت کا مفہوم یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی نظروں سے او جھل ہوں۔ جنکو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا نہیں فرمائی (یعنی بصیرت سے عاری ہے) ورنہ جنکو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہے تو وہ مجھے دیکھتے ہیں اور میں

انہیں دیکھتا ہوں۔ (المنقذ من العصال)

علامہ شہاب الدین محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی موت یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں ورنہ وہ زندہ ہیں جیسے ملائکہ زندہ موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ (روح المعانی)

مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی موت صرف اتنی ہے۔ کہ وہ دنیا سے غائب ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ہم ان کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اگرچہ وہ فرشتوں کی طرح زندہ ہیں۔ مگر فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے جسے خاص کر دے وہ بطور کرامت دیکھ سکتے ہیں۔ (فتاویٰ)

حضرت مولانا محمد بن عبدالباقی متوفی رحمۃ اللہ علیہ ۱۱۱۲ھ تحریر کرتے ہیں۔

حضور ﷺ کی ظاہری زندگی اور موت کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ (زرقاتانی)

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں۔

1۔ آپ ﷺ اپنی اسی ہیئت پر ہیں۔ جو موت سے قبل تھی اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں

۔ ہاں بات صرف اتنی ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ جیسا کہ

2۔ فرشتے اپنی اصلی حالت میں زندہ ہیں اور وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ (بحوالہ روح المعانی)

3۔ انبیاء علیہم السلام کا فوت ہو جانا صرف ایسا ہے کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں ورنہ

فی الواقع وہ زندہ ہیں۔ اور وہ فرشتوں کی طرح موجود ہیں یعنی جس طرح فرشتے موجود

ہیں اور نظر نہیں آتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جسکو چاہے دیدار کر دیتا ہے۔ (انباء الاذکیا)

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور کشف

مسئلہ طول پکڑ گیا ہم نے کشف کے بارے میں عرض کیا تھا۔ کہ عالم برزخ والوں سے براہ

راست برزخی مقامات کے معلوم کرنے کا ایک ذریعہ کشف بھی ہے۔ جو مراقبہ سے حاصل

ہوتا ہے کشف عالم دنیا اور عالم برزخ دونوں کے حالات سے حصول کا ذریعہ ہے اس کا حصول صرف عرفاء اور صوفیاء کرام کو ہوتا ہے۔ بطور تمبرک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چند واقعات کشف تحریر ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کشف کے واقعات اتنے زیادہ ہیں جو گنتی اور شمار میں نہیں آسکتے۔ ذخیرہ احادیث ان واقعات سے مملو ہے۔ بطور مثال چند واقعات تحریر کرتا ہوں۔ اس سے استیعاب مقصود نہیں بلکہ مشتے نمونہ از خردار ہیں۔

صحابی رسول ﷺ: اصطلاح شرع میں ہر اس شخص کو صحابی رسول کہا جاتا ہے جس صاحب ایمان نے حضور ﷺ کی ذات اقدس کو ایک لمحہ کے لئے بھی آنکھوں سے دیکھا ہو یا آپ ﷺ سے ملاقات کی ہو (اور ایمان پر وفات پائی ہو)۔

جیسے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے۔ لیکن ان کا شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہے۔ حالانکہ ان کو شرف دیدار نہیں بلکہ شرف ملاقات حاصل تھا۔

صحاب کرام کا زمانہ: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زمانہ ابتدائے نبوت سے لیکر آخری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت تک ہے اور یہ زمانہ تقریباً ایک سو بیس سال کا ہے۔ حضرت ابوالطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکہ مکرمہ میں 100ھ میں ہوا۔ خود فرمایا کرتے تھے۔ کہ میرے سواروئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے حضور ﷺ کو دیکھا ہو۔

صحابہ کرام کی شان: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کی رویت اور تربیت کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو امت میں ان کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔

رویت نبوی ﷺ کی شان: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ اس شخص (صاحب ایمان) کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئیگی۔ جس نے مجھے (حضور ﷺ) کو دیکھا یا مجھ کو دیکھنے والے (صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو دیکھا۔ (ترمذی)

حضور ﷺ کی تربیت کی شان: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین اسلام کی خاطر تکالیف برداشت کیں طرح طرح کی صعوبتیں جھیلیں۔ حتیٰ کہ دین اسلام کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی۔ لیکن حضور ﷺ کی معیت اور ان کی ذات اقدس سے حصول تربیت کو نہ چھوڑا حضور ﷺ نے صحابہ کرام کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کیا کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں مناقب صحابہ کے عنوان سے قائم کردہ باب ان کی شان و عظمت کے بیان سے مملو ہیں۔ اس مقام پر میں صرف ایک حدیث پاک تحریر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائیگا۔

حدیث پاک: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو گالی نہ دو اس ذات کی قسم جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے۔ تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک مد کے ثواب کو نہ پہنچے گا اور نہ اس کے آدھے کے برابر۔ (متفق علیہ)

حضور ﷺ کی توجہ سے کشف: عن انس بن مالک رضی قال:

خرجت مع رسول الله ﷺ من البيت الى المسجد، و قوم في المسجد رافعي ايديهم يدعون الله، فقال لي رسول الله ﷺ: هل ترى ما اري بايدي القوم؟ فقلت: ماترى في ايديهم: فقال: نور قلت: ادع الله ان يرنيه قال: فدعاء، فرأيتة فقال: يا انس استعجل بنا حتى نشارك القوم فاسرعت مع نبي الله ﷺ فرفعنا

ایدینا۔ (راوہ البخاری فی التاریخ و الطبرانی فی الدعاء واللفظ له)
 ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی معیت
 میں گھر سے مسجد کی طرف نکلا اور کچھ لوگ مسجد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ سے دعا سے
 مانگ رہے تھے تو مجھے حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو ان کے
 ہاتھوں میں ہے؟ تو میں نے عرض کیا: آپ ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ
 ﷺ نے فرمایا: (میں ان کے ہاتھوں میں) نور (دیکھ رہا ہوں) میں نے عرض کیا: یا رسول
 اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے بھی یہ نور دکھائے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور
 ﷺ نے دعا فرمائی۔ پس میں نے بھی اس نور کو دیکھ لیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے انس
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ! جلدی کرو یہاں تک کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ (دعا میں) شریک ہو
 سکیں۔ پس میں بھی حضور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ جلدی جلدی ان لوگوں کی طرف گیا پھر ہم
 نے بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے۔“ (منہاج السوی)

حدیث پاک: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں مسجد میں
 تھا ایک شخص آیا نماز پڑھنے لگا اس نے اپنی قرأت پڑھی کہ میں نے اس کا انکار کیا ایک اور
 شخص آیا اس نے پہلے کے خلاف قرأت کی جب ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم سب رسول ﷺ
 کے پاس آئے۔ میں نے کہا اس شخص نے قرأت پڑھی۔ میں نے اس کی قرأت کا انکار
 کیا۔ اس پر ایک اور آدمی آیا اس نے اس کے خلاف پڑھی۔ آپ نے ان دونوں کو حکم دیا
 دونوں نے قرأت پڑھی آپ ﷺ نے ان کی قرأت کی تحسین کی۔ میرے دل میں جھوٹ کا
 شبہ ہوا جو کہ جاہلیت میں بھی نہ تھا۔ جب آپ نے میری اس حالت کو دیکھا میرے سینہ پر
 ہاتھ مارا میں پسینہ پسینہ ہو گیا گویا کہ ڈر کی وجہ سے میں اللہ کو دیکھنے لگا فرمایا اے ابی میری
 طرف فرشتہ بھیجا گیا قرآن پڑھا ایک طریقہ سے میں نے اللہ سے تکرار کیا میری امت پر
 آسان کر پھر حکم ہوا کہ قرآن کو دو طرح سے پڑھو پھر میں نے اللہ سے تکرار کیا کہ میری امت

پر آسانی کر تو میری طرف تیسری بار حکم کیا گیا قرآن کو سات قرآت سے پڑھ۔ تیرے لئے ہر بار کے بدلے سوال کرنا ہے سوال کر تو مجھ سے میں نے کہا اے اللہ میری امت کو بخش یا الہی میری امت کو بخش یا الہی میری امت کو بخش۔ تیسرے سوال کی میں نے تاخیر کی۔ جب تمام مخلوق میری طرف خواہش کرے گی یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ روایت کیا اسکو مسلم نے۔ (کذابی المشکوٰۃ)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مرتے وقت وراثت تقسیم کرنے کی وصیت فرمائی جبکہ آپ کی اہلیہ محترمہ حمل سے تھیں۔

فرمایا۔ (میری وراثت) تمام وارثوں کا مال ہے۔ جس میں تمہارے دو بھائی اور تمہادی دو بہنیں شریک ہیں۔ اس کو قرآن پاک کے احکام کے موافق تقسیم کر لینا جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا۔۔۔۔۔ (ابا جان) یہ تو فرمائیے کہ میری بہن تو صرف اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے یہ دوسری کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بنت خارجہ (اہلیہ محترمہ) کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ بس میری اس وصیت کو قبول کرو۔ بالآخر جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ (تاریخ الخلفاء)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے۔ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں القاء کی جاتی تھیں یعنی انہیں (کشف) الہام ہوتا تھا۔ میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ (تاریخ الخلفاء)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سار یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جہاد کی غرض سے ایک لشکر (نہاوند) روانہ کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے اسی دوران فرمایا اے

ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی جانب ہٹ جا۔ آپ نے تین دفعہ اس طرح فرمایا۔۔۔۔۔ جب تھوڑے دنوں بعد اس فوج کا قاصد آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لڑائی کا حال پوچھا قاصد نے عرض کیا امیر المؤمنین ایک دن ہم شکست کھانے ہی والے تھے کہ ہمیں ایک آواز سنائی دی۔۔۔۔۔ کہ اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا اس آواز کو ہم نے تین مرتبہ سنا۔ اور ہم نے پہاڑ کی طرف پیٹھ کر کے سہارا لیا تھا۔

کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دی۔ (تاریخ الخلفاء)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر نہاوند میں لشکر اسلام کو دیکھ لیا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیا اور آپ کی رہنمائی پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ

ایک جوان مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک عورت اس پر مائل ہو گئی اور اس نو جوان کو برائی کی دعوت دی یہ سلسلہ جاری رہا قریب تھا کہ نو جوان اس کے گھر میں داخل ہوتا۔ پس اس نو جوان کو یہ آیت یاد آئی۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو الیٰ آخرہ۔ تو نو جوان نے اس آیت کو یاد کیا اور غش کھا کے گر پڑا افاقہ ہوا۔ پھر غش کھا کر گر پڑا۔ اور مر گیا پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے آئے نو جوان کو رات کے وقت دفن کیا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے اور اپنے ساتھیوں سمیت دعا کی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نو جوان کو آواز دی۔

اے نو جوان جو شخص اپنے رب کے روبرو کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو قبر سے اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ (ابن کثیر)

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استفسار: - قارئین کرام ایک وقت تھا کہ فاروق

اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کے سننے کے بارے میں استفسار فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیں
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر میں جب کفار قتل کر کے کنویں
میں ڈالے گئے تو حضور کریم ﷺ نے کنویں پر کھڑے ہو کر پکارا کہ اے فلاں ابن
فلاں پروردگار نے جو وعدہ تم سے کیا تھا۔ اس کو تم نے سچ دیکھا یا نہیں ہم سے تو جو وعدہ
پروردگار نے کیا تھا۔ اس کو ہم نے سچ دیکھا (اس پر) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
- یا رسول اللہ جن لوگوں کے بدن میں روح نہیں ہے آپ ان سے کیونکر کلام کرتے ہیں
- آپ ﷺ نے فرمایا۔ جو بات میں کہتا ہوں اس کو تم سے زیادہ وہ سنتے ہیں۔

برادران اسلام حضور ﷺ کی تربیت سے ایک وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
ایسا بھی آیا۔ کہ کشف سے عالم برزخ کے حالات منکشف ہو گئے اب آپ قبر میں نوجوان
سے خطاب بھی فرما رہے ہیں اور قبر سے اس کا جواب بھی سن رہے ہیں۔

حضرت ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت طارق بن شہاب سے روایت کی ہے کہ ایک
شخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمکلام ہوا۔ دوران گفتگو جب وہ شخص کوئی
جھوٹی بات کہتا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس بات کو یاد رکھنا پھر وہ
باتیں کرنے لگتا پھر جب کوئی جھوٹی بات کرتا تو آپ اس کو ٹوک کر فرماتے۔ اس بات کو بھی
یاد رکھنا آخر کار اس شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری تمام گفتگو
میں جہاں جہاں ٹوک کر آپ نے اس بات کو یاد رکھنا فرمایا ہے۔ یہ جھوٹی ہیں اور باقی پوری
باتیں سچی ہیں۔ (تاریخ الخلفاء)

قارئین کرام! ہر جھوٹی بات کو پہچان لینا نہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا
ادراک بلکہ درحقیقت کشف تھا۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی کا کشف :- حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے آزاد کردہ غلام مجن فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے ساتھ آپ کی ایک زمین پر گیا جہاں ایک عورت نے جو کسی تکلیف کا شکار تھی آپ سے (بلا وجہ بغیر حقیقت) کہا امیر المؤمنین مجھ سے زنا کی غلطی ہو گئی ہے آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس عورت کو نکال دو میں نے اس کو بھگا دیا تھوڑی دیر بعد اس عورت نے آکر پھر کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے مجن اسے باہر نکال دو۔ میں نے اسے دور بھگا دیا۔ تیسری مرتبہ اس عورت نے پھر آکر کہا۔ اے خلیفہ وقت میں نے بلا شک زنا کیا ہے۔ میرے تین دفعہ اقرار پر حد زنا جاری کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا مجن اس عورت پر مصیبت آپڑی ہے۔۔۔۔۔ تم جاؤ اور اس کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کو پیٹ بھر روٹی اور تن کے لیے کپڑا دو۔ میں اس کو ساتھ لے گیا آپ کے فرمان پر عمل کیا۔ حتیٰ کہ وہ مطمئن ہو گئی۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ اچھا اب کھجور آنا اور کشمش گدھے کے اٹھانے کا وزن گدھے پر لا کر اس کو جنگل کے باشندوں کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو اس عورت کو اس کے اہل و عیال کے پاس پہنچا دیں چنانچہ جب ہم روانہ ہوئے میں نے راستے میں اس سے پوچھا کہ کیا اب بھی تو اس بات کا اقرار کرتی ہو جس کا تم نے امیر المؤمنین کے سامنے کیا تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں ہرگز نہیں کیونکہ میں نے جو کچھ کہا تھا۔ وہ صرف تکلیفوں اور مصیبتوں کی وجہ سے کہا تھا۔ کہ حد لگادی جائے اور میں مصیبتوں سے نجات پا جاؤں اس واقعہ کو عقلی نے بھی روایت کیا ہے۔ (کنز العمال)

قارئین کرام! یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف تھا۔ جو بالکل صحیح واقعہ ہوا۔

حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی باغ کو کب سے گذرتے تو فرماتے کہ یہاں عنقریب ایک نیک مرد مومن دفن کیا جائیگا۔ (استیعاب)

چنانچہ آپ خود وہاں دفن کیے گئے۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف: حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ

عنه بن کثیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ جہاں بطخیں آپ کو دیکھ کر چلانے لگیں لوگوں نے ان کو آپ کے پاس سے ہٹایا تو آپ نے فرمایا ان کو رہنے دیں چھوڑو کیونکہ یہ نوحہ پڑھ رہی ہیں۔

پھر ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا۔ (کنز العمال۔ ابن عساکر)

حضرت علی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آگاہ ہو جاؤ یہ شخص مجھے قتل کریگا۔ آخر کار جیسا آپ نے فرمایا تھا اسی بد بخت ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا۔ (استیعاب)

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کشف: حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ

تعالیٰ عنہا نے بیان کیا۔ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئیں۔ جسمیں ان کی موت ہوئی وہ بیمار تھیں اور میں ان کی تیماردار تھی۔ ایک دن صبح سویرے میں نے انہیں دیکھا کہ ان کو افاقہ ہوا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہنے پر باہر گئے ہوئے تھے (حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے فرمایا) اے اماں میں نہانا چاہتی ہوں۔ میرے لئے نہانے کا پانی انڈیل دو میں نے پانی تیار کر دیا۔ اور جس طرح وہ تندرستی میں نہاتی تھیں۔

اچھی طرح سے خوب نہائیں۔ پھر انہوں نے مجھے سے نئے کپڑے مانگے۔ میں نے ان کو کپڑے بھی دے دیئے کپڑے پہن کر کہا امی اب ذرا آپ میرے گھر کے بچوں بیچ بچھونا بچھا دیجئے میں نے یہ بھی کر دیا پس وہ بستر پر لیٹیں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنا ایک ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر کہا اے امی جان اب میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جا رہی ہوں۔۔۔۔۔ اسکے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔

حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مرض الموت میں تھیں ان کو قرب موت کا کشف

ہوا۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف :- حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ

عنه قریب المرگ ہوئے تو انہوں نے (اپنے بھائی) حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔۔۔ اللہ کی قسم میں یہ امر تجویز نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہم اہل بیت نبوی میں نبوت اور خلافت دونوں چیزوں کو جمع کر دے۔

میرا اندازہ یہ ہے کہ خلافت اہل بیت میں نہیں رہیگی اور یقیناً میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوفے کے بیوقوف تم کو حرکت دے کر جنگ و جدال پر متوجہ کریں اور تم کو وطن سے باہر نکال دیں۔ (تاریخ الخلفاء)

قارئین کرام! ان امور کا اس وقت تک بظاہر کوئی قرینہ تک نہ تھا۔ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نازیبا برتاؤ کریں گے لیکن آپ کو کشف کے ذریعہ یہ سب کچھ معلوم ہو گیا۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش پر کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس دفن کیا جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے وہاں دفن ہونے کی اجازت دیدی تھی (بھائی سے فرمایا) لیکن اس کے ساتھ ہی میرا گمان ہے کہ قوم تم کو اس بات سے روکے گی اور وہ ایسا کریں یعنی میرے دفن سے تم کو روکیں تو ان سے بار بار نہ کہنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پھر اجازت طلب کی انہوں نے فرمایا نہایت خوشی سے لیکن مدینہ کے گورنر مروان نے ان کو وہاں دفن کرنے سے منع کر دیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو باز رکھا۔ آخر کار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقیع میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس دفن کیا گیا۔ (تاریخ الخلفاء)

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت کسی کو توقع نہ تھی کہ آپ کو وہاں دفن کرنے سے روکا جائیگا لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر حالات کے خلاف ہونے

والے واقعہ کو بذریعہ کشف ظاہر کر دیا تھا۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کشف: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے اپنے والد بزرگوار نے طلب کر کے فرمایا کل اصحاب رسول اللہ ﷺ کی شہادت میں سب سے پہلے میری شہادت ہوگی۔ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔

سنو مجھ پر ایک آدمی کا قرضہ ہے۔ وہ تم ادا کر دینا۔ اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھلائی کرنا صبح کو میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے میرے والد ماجد ہی شہید ہوئے۔ (بخاری۔ کذافی المشکوٰۃ)

حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف: حافظ عماد الدین اسماعیل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ کے پاس سے گذرا۔ آپ نے فرمایا اے حارث کیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا حقیقی مومن ہوں۔ فرمایا سوچو تو سہی کیا کہہ رہے ہو۔ ہر شے کی حقیقت ہوتی ہے۔ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میرا نفس دنیا سے منہ موڑ چکا ہے۔ رات کو رب کی عبادت کرتا ہوں۔ دن کو روزہ رکھتا ہوں۔

کشف: کی حالت یہ ہے کہ عرش الہی کو ظاہر و باہر دیکھتا ہوں اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں اور اہل دوزخ کو چیختا ہوا دیکھتا ہوں تو حضور ﷺ نے فرمایا۔ اے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے ٹھیک پہچانا۔ پس اسے لازم پکڑو تین دفعہ فرمایا۔ (ابن کثیر)

حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کلدہ کا کشف:-

☆ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دلیا کھا رہے تھے جو تحفہ طور پر آیا تھا دلیا کھاتے کھاتے ایک مرتبہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے خلیفہ رسول ﷺ ہاتھ کھینچ لیجئے اللہ کی قسم اس حریرہ میں وہ زہر ہے جس سے سال بھر میں ہلاکت واقع ہوتی ہے اب آپ اور میں ایک دن مرینگے چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیا کھانا چھوڑ دیا اور پھر دونوں ایک سال بیمار رہ کر ایک ہی دن اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ (ابن سعد، حاکم)

1- حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ کشف یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس دلیا میں زہر ملا ہوا ہے۔ جسکا کھانے والا ایک سال میں ہلاک ہو جاتا ہے۔

2- حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ کشف یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دونوں کی وفات ایک ہی دن ہوگی۔

☆ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اسرار تھے۔ جن اسرار کو ان کے بغیر کوئی نہیں جانتا تھا حتیٰ کہ منافقین کے ناموں کا علم رکھتے اور اکثر آنے والے واقعات کا علم رکھنے میں وہ مخصوص تھے۔ دوسرے صحابہ کو اس کا علم نہ تھا۔ (فتح الباری)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف والہام اور علم اسرار سے وہ حصہ وافر ملا جو اور کسی صحابی کو نہ ملا تھا۔

☆ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے چار پائی اٹھائی اور حجرہ شریف کے دروازے پر رکھ دی اور یوں عرض گزار ہوئے۔

السلام عليك يا رسول الله هذا ابو بكر بالبواب فاذا الباب قد
انفتح واذا بهاتف يهتف من القبراد خلو الحبيب الى
الحبيب۔ (تفسیر کبیر جلد پنجم)

(صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا) السلام عليك يا رسول الله یہ ابو بکر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ دروازے پر ہیں۔ اچانک دروازہ کھل گیا۔ اور قبر شریف کے اندر سے آواز آئی حبيب
کو حبيب کے پاس لاؤ۔

کشف اور عالم برزخ

قارئین کرام اب کشف کے ان واقعات اور مشاہدات کا خصوصی طور پر ذکر کیا جاتا ہے
جنکا تعلق عالم برزخ سے ہے۔

اور اس باب کا آغاز احادیث رسول اللہ ﷺ سے کیا جاتا ہے کیونکہ قبر کے حالات کے
بارے میں ارشادات گرامی کا تعلق بھی اسی باب سے ہے،

احادیث مبارکہ

☆ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ بنی نجار کے باغ
میں اپنے خچر پر سوار تھے۔ اور ہم حضور ﷺ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدکا قریب تھا
کہ آپ کو گرا دیتا۔ ناگاہ وہاں پانچ چھ قبریں تھیں حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان قبور والوں کو کوئی
پہچانتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں (پہچانتا ہوں) حضور ﷺ نے فرمایا یہ کب مرے
عرض کیا زمانہ شرک میں حضور ﷺ نے فرمایا یہ گروہ اپنی قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں
۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ
تمہیں بھی سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ الی آخرہ (مسلم)

حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ خوف نہ ہوتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دفن کرنا چھوڑ دینگے تو دعائے نبوی سے ہر صحابی کو کسب کے بغیر کشف ہو جاتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مشرکین کی اولاد کے بارے میں پوچھا تو حضور ﷺ نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو میں ان کی آوازیں دوزخ سے تمہیں سنا دیتا ہوں۔

اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاہتی تو دعائے نبوی سے ان کو بھی بلا کسب کشف ہو جاتا ان دونوں حدیثوں کے مطابق آپ ﷺ تو انکے عذاب کو سن ہی رہے تھے۔

☆ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ دو قبروں کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ میں نہیں (جس سے بچنا ان کے لیے مشکل تھا) ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا اور دوسرا چغلیاں کھایا کرتا تھا۔

☆ بروایت ابن قیم شعمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور ﷺ سے ذکر کیا کہ میں بدر کے مقام سے گذرا تو میں نے (قلیب بدر میں) دیکھا کہ ایک شخص زمین سے نکلتا ہے۔ کہ نکل بھاگے تو جب ہی ایک دوسرا شخص اسے گرز سے مارتا ہے جس سے وہ زمین میں اتر جاتا ہے۔ پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا یہ ابو جہل ہے جو قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہیگا۔

☆ حضرت عبید بن مرزوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ شریف میں ایک عورت تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ جب مرگئی لوگوں نے اسے دفن کر دیا اور نبی ﷺ کو اسکی خبر نہ دی۔ ایک روز آپ ﷺ اسکی قبر کی طرف سے گزرے پوچھا یہ کس کی قبر ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ فلاں عورت کی قبر ہے آپ نے فرمایا جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام نے اس پر نماز پڑھی۔ پھر آپ نے عورت سے پوچھا تو نے کون سا عمل اچھا پایا۔ لوگوں نے عرض کیا

یا رسول اللہ کیا وہ آپ کا کلام سنتی ہے آپ ﷺ نے فرمایا وہ تم سے زیادہ سنتی ہے۔ پھر عورت نے جواب دیا کہ مسجد میں جھاڑو دینا میں نے سب عملوں سے افضل پایا۔ (شرح الصدور الترغیب)

رَوِيَّائِ عَصَادِقَ

رَوِيَايَ صَادِقَه :- قارئین کرام وہ ذرائع جن سے بندہ مومن برزخی مقامات سے باذن اللہ تعالیٰ باخبر ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ذریعہ رَوِيَايَ صَادِقَه یعنی سچے خواب بھی ہیں حضور ﷺ سے حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ (خواب) کہ مسلمان خود دیکھے یا اسکے لیے دیکھا جائے۔ (مشکوٰۃ شریف)

یہ مقام زیادہ تر صحابہ کرام و عرفاء عظام اور بزرگان دین کا ہے۔ الحمد للہ بعض دفعہ عام مسلمان بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں حضور ﷺ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک کے مطابق اچھا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔ لہذا یہ حقیقت ہے کہ زندہ آدمیوں کے لیے خواب ہی ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے زندہ مردوں سے خواب میں ملاقات کرتے ہیں۔ اور ان کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں اس راستے سے زندوں پر مردوں کے برزخی حالات کھل جاتے ہیں۔ باذن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ مردے ایسی باتوں کی خبریں دیتے ہیں۔ جنکا زندہ بلکہ دنیا میں کسی کو بھی علم نہیں ہوتا اور سو فیصد بفضلہ تعالیٰ صحیح نکلتی ہیں ایسے لاتعداد واقعات محدثین حضرات نے نقل کئے ہیں ابتداء قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں خواب کا ذکر کرنے کے بعد چند واقعات بھی تحریر کرنے کی کوشش کرونگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

رَوِيَايَ صَادِقَه قرآن پاک کی روشنی میں

قرآن پاک اور احادیث رسول ﷺ میں مختلف مقامات پر رَوِيَايَ صَادِقَه کا ذکر آیا ہے۔ مجھے اپنی اس کتاب میں خصوصی طور پر ان رَوِيَايَ صَادِقَه کا ذکر کرنا ہے۔ جنکا تعلق عالم برزخ سے ہے۔ لیکن ابتداء میں نے قرآن پاک اور احادیث رسول ﷺ کی روشنی میں چند خوابوں کا ذکر کیا ہے۔ تاکہ حصول برکت کے ساتھ ساتھ رَوِيَايَ صَادِقَه کی اہمیت اور ان کی عظمت واضح ہو جائے۔ بلا مبالغہ قرآن پاک اور احادیث رسول ﷺ میں ذکر شدہ رَوِيَايَ صَادِقَه قدرتی طور پر اتنے مؤثر ہیں

کہ کوئی شخص بھی جس میں تھوڑا بھی خوف خدا ہو انکو پڑھ کر ان کو سن کر بغیر متاثر ہوئے نہیں رہ سکتا۔
قارئین کرام! اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کے علم سے بھی سرفراز فرمایا تھا روایات صادقہ کی اہمیت اور عظمت پر قرآن پاک سے واضح دلیل ہے
 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ويعلمك من تاويل الاحاديث۔ اور سکھائے گا تم کو تعبیر
 (روایا) کا علم

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب:۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قال بينى انى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى۔
 ترجمہ: فرمایا اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ یہ سن کر
 حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ سے عرض کیا۔

قال يابت افعل ماتومر ستجدنى ان شاء الله من الصابرين۔
 عرض کیا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اللہ نے چاہا تو قریب ہے
 آپ مجھے صابر پائینگے۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حکم کی تعمیل میں باپ بیٹے کو مخلص پایا۔ اور ان کی صدق نیت کو
 دیکھ کر قد صدقت الروایا کے ارشاد گرامی سے امتحان میں کامیابی کا مژدہ سنایا اور حضرت
 اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ایک بڑا ذبیحہ دیکر ان کو بچالیا۔ اور تا انقرض عالم ان کی
 یادوں کو قربانی کی صورت میں قائم و دائم فرمایا۔

حدیث پاک:۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے
 حضور ﷺ سے عرض کیا اللہ کے رسول ﷺ قربانی کیا ہے۔ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ
 السلام کا طریقہ اور انکی سنت ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا اللہ کے رسول

ﷺ ہمیں اس سے کیا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا پس صوف کے متعلق کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول - حضور ﷺ نے فرمایا۔ صوف کے ایک بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ (احمد، ابن ماجہ)

قارئین کرام! قرآن پاک کی روشنی میں خواب اور خواب میں دئے گئے حکم کی اہمیت واضح ہے یاد رکھیں انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب: قرآن پاک میں ہے۔

يا بت انى رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم
لى سجدين۔ (یوسف)

ترجمہ۔ (یاد کرو) جس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا۔ اے میرے باپ میں نے خواب میں دیکھا ہے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو۔ میں نے انکو اپنے واسطے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (اتھلی)

قارئین کرام! حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت طویل ہے قرآن پاک نے اس قصہ کو احسن القصص کے نام سے ذکر کیا ہے اس قصہ کا احاطہ کرنا یہاں ممکن نہیں۔ تاہم نہایت اختصار سے اتنا ذکر کرنا ضرور مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس خواب کی تعبیر کے ضمن میں دو قیدیوں اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ مقام نبوت عظمت نبوت سے بھی آگاہ ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے صبح ہوتے ہی اپنے باپ کو خواب سے مطلع فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آخر نبی تھے خواب سن کر بیٹے کے روشن مستقبل پر خوش ہوئے۔

اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عطا سے نبوت کے کمالات سے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند ایسے انعامات سے مطلع فرمایا۔ جنکا ذکر صریح طور پر ان کے خواب میں نہیں تھا اور بھائیوں کی

طرف سے کچھ خطرات بھی محسوس کئے ان سے بھی متنبہ فرمایا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

یٰبٰنٰی لا تقصص رِوٰیٰک علیٰ اٰخوتک فیکیدوا لک کیدا سے
ان ربک علیم حکیم تک۔ (سورۃ یوسف)

ترجمہ۔ اے بیٹے مت بیان کرنا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ورنہ وہ ضرور کچھ فریب
کریں گے اور اس طرح تمہارا رب تم کو برگزیدہ کرے گا (نبوت سے سرفراز فرمائے گا) اور
سکھائے گا تم کو تعبیر (روایا) کا علم اور تم پر اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان پر اپنا انعام کامل
کریگا۔ جیسا کہ اس سے قبل تمہارے دادا پر دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ
السلام پر کامل کر چکا ہے واقعی تمہارا رب بڑے علم و حکمت والا ہے۔

قارئین کرام! اس خواب کی تعبیر تقریباً 45 سال بعد ظہور پذیر ہوئی۔

قیدیوں کے خواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل خانہ میں بھیجوائے جانے
کے کچھ عرصہ بعد دو قیدی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں جیل خانہ میں لائے گئے ایک
بادشاہ کا نائبی اور دوسرا ساقی تھا۔ یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق
حسنہ سے متاثر ہو کر آپ کے معتقد ہو گئے ایک دن دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف
علیہ السلام سے بیان کیا ساقی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہ میں شراب پھوڑتا
ہوں اور بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔

دوسرے شخص نے کہا۔ کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور
پرنڈے روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں ہم آپ کو بزرگ جانتے ہیں آپ ہمیں تعبیر بتلائیں۔

خوابوں کی تعبیر: پہلے شخص ساقی سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی ملازمت اور خدمت پر
بحال کر دئے جاؤ گے دوسرے شخص نائبی سے فرمایا کہ تمہیں سولی پر لٹکایا جائیگا۔ یہ فیصلہ

شدہ امر ہے۔ جو کسی کے ٹالے ٹال نہیں سکتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعبیر سکر و ونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم تو آپ کا امتحان لے رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم جو کچھ بھی کہو۔ جو میں کہ چکا ہوں۔ یہ قضا اور قدر کا فیصلہ ہے۔

اب اس میں کسی قسم کا تخلف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔

بادشاہ کا خواب: اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی باعزت رہائی کا سبب پیدا کر دیا چنانچہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وقال الملك انى راى سبع بقرات سمان يا كلهن سبع
عجاف و سبع سنبلت خضر و اخريست۔

ترجمہ۔ بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جنکو سات دبلی گائیں کھاتی ہیں۔ اور سات ہری بالیں ہیں اور سات سوکھی بالیں ہیں۔

بادشاہ کو اس خواب نے بڑا سخت پریشان کر دیا۔ بڑے بڑے تعبیر دینے والوں کو جمع کیا لیکن سب نے کہا یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں رکھتے آخر دو قیدیوں سے وہ شخص جو رہا ہوا تھا۔ آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا۔

اگر اجازت ہو تو میں قید خانہ میں اس شخص سے دریافت کروں جو مدت سے قید خانہ میں ہے بادشاہ نے اجازت دی وہ شخص قید خانہ میں آیا۔ اور یوسف علیہ السلام سے یوں عرض کیا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

یوسف ایہا الصدیق افتنا سے و فیہ یعصرون تک (سورۃ یوسف)
اے یوسف۔ اے صدیق آپ ہم لوگوں کو اس کا جواب دیجئے کہ ساتھ موٹی گائیں اور ان کو

سات گائیں دہلی کھا گئیں۔ اور ساتھ بالیں ہری ہیں اور اس کے علاوہ خشک بھی ہیں۔ تاکہ ان لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں اور بیان کروں۔ تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے آپ نے فرمایا تم سات سال متواتر غلہ بونا پھر جو پھل کاٹو ان کو بالوں میں رہنے دو۔ ہاں مگر تھوڑا سا جو تمہارے کھانے میں آوے پھر اس کے بعد سات برس ایسے سخت آویں گے جو کہ اس ذخیرہ کو کھا جاویں گے۔ جس کو تم نے ان برسوں کے واسطے جمع کر کے رکھا ہوگا۔ مگر تھوڑا سا جو رکھ چھوڑو گے۔

پھر اس کے بعد ایک برس آوے گا جس میں لوگوں کے لیے خوب بارش ہوگی اور اس میں شیرہ بھی نچوڑینگے۔ یہ تعبیر سنکر وہ شخص (ساتی) فوراً بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ اور خواب کی تعبیر بیان کی تعبیر سن کر بادشاہ خود یوسف علیہ السلام کی زبانی تعبیر سننے کا مشتاق ہو گیا اور حکم دیا۔

ایتونی بہ (سورۃ یوسف) جاؤ اور اس کو میرے پاس لیکر آؤ۔

مقام نبوت: حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بارہ سال گذر چکے تھے لیکن شان نبوت کو دیکھیں اپنی برأت سے پہلے باہر آنے سے انکار کر دیا۔

حضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ قال رسول اللہ ولو لبثت فی السجن طول مالبت یوسف لاجبت الداعی۔ (متفق علیہ) (حضرت ﷺ)

حضرت یوسف علیہ السلام کی داد دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیل میں جس قدر یوسف علیہ السلام رہے اگر میں رہتا تو بلانے والے کی بات مان لیتا۔ (متفق علیہ)

(لیکن) حضرت یوسف علیہ السلام نے بلانے والے شخص سے فرمایا۔

ارجع الی ربک فاسئله ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن ان ربی بکیدهن علیم۔ (سورۃ یوسف)

اے ساتی تو اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ کر جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے

جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے۔ میرا رب ان عورتوں کے فریب کو خوب جانتا ہے۔
 بادشاہ نے اسی وقت ان تمام عورتوں کو بلایا۔ اور کہا تم صحیح حال بیان کرو۔ عورتوں نے کہا
 ما علمنا علیہ من سوء (سورۃ یوسف) حاشا للہ ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی دکھائی
 نہیں دی زلیخا بھی اپنے عیب کو نہ چھپا سکی۔ اس نے کہا

انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ میں نے ہی ان سے اپنے
 مطلب کی خواہش کی تھی بے شک وہ سچے ہیں۔

باعزت رہائی:۔ جب بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے یوسف علیہ السلام کے
 سچے ہونے کی بات سنی تو صرف باعزت رہائی کا حکم ہی نہ دیا۔ بلکہ یہ حکم دیا

وقال الملك ائتونی به استخلصہ لنفسی۔ (سورۃ یوسف)

بادشاہ نے کہا اے ساتی جلدی جا اور ان کو میرے پاس لیکر آ (ایسے شخص کو) میں خاص اپنے
 لئے رکھوں گا۔

حضرت یوسف علیہ السلام باعزت رہائی کا پیغام سنکر ساتی کیساتھ قید خانہ سے نکلے جب بادشاہ
 کے دربار میں تشریف لائے تو بادشاہ نے ان کا پر تپاک خیر مقدم کیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف
 علیہ السلام سے کلام کی۔ آپ سے خواب کی تعبیر کی تمام تفصیلات دریافت کی بادشاہ پر آپ کی پُر
 تاثیر کلام کا بڑا اثر ہوا۔

فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ (سورۃ یوسف)

جب بادشاہ نے ان سے باتیں کیں تو کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج سے بڑے معزز اور معتبر ہو۔
 بادشاہ نے پہلا کام یہ کیا کہ عزیز مصر سے خرید کر آپ کو آزاد کر دیا اور تمام مالیاتی امور پر آپ
 کو حاکم اعلیٰ مقرر کر دیا۔

اسی دوران عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے

عہدہ پر مستقل طور پر فائز کر دیا۔ چنانچہ آپ نے غلہ کی پیداوار کی طرف خصوصی توجہ دی حتیٰ کہ بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنایا۔ پیداوار کے ایک بڑے حصہ کو احتیاط سے رکھنے کے انتظام فرمائے۔ اس طرح قحط کے عذاب سے اہل مصر کو نجات دلائی۔

قرآن پاک میں حضور ﷺ کے خوابوں کا ذکر جمیل

1۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لقد صدق الله رسوله الرءيا بالحق لتد

خلن المسجد الحرام سے فتحا قريبا تك۔ (الفتح)

ترجمہ۔ بیشک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول ﷺ کا سچا خواب بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گے۔ اگر اللہ نے چاہا امن و امان سے اپنے سروں کے بال موٹتے ہوئے یا ترشواتے ہوئے بے خوف۔ تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں۔ پھر مقرر کر دی اس سے پہلے ایک فتح نزدیک۔ انتھی حضور ﷺ نے مدینہ شریف میں خواب دیکھا۔ کہ ہم مکہ مکرمہ میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے حلق اور قصر کیا۔ آپ ﷺ نے یہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیان فرمایا۔

مگر آپ نے وقت کا تعین نہیں فرمایا تھا۔ مگر شدت اشتیاق سے اکثر لوگوں کا خیال اس طرف گیا کہ اس سال عمرہ کرنا میسر ہوگا۔ اور قدرتی طور پر آپ کو قصد بھی عمرہ کا ہو گیا۔ آپ تقریباً ڈیڑھ ہزار آدمیوں سمیت مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مقام حدیبیہ پر آپ ﷺ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اور اٹھنے کا نام نہ لیا حضور ﷺ نے فرمایا۔ حبسها حابس الفیل۔ ادھر آپس میں قریش نے بھی اتفاق کیا۔ کہ آپ ﷺ کو مکہ نہ آنے دینگے۔ آخر حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی اور مسلمان عمرہ کرنے کے بغیر واپس ہوئے اور آئندہ سال ۷ھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا خواب سچ کر دکھایا۔ اور امن و امان کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا فرمایا۔ فعلم

مالم تعلموا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جانتے تھے کہ خواب کی تعبیر ایک سال بعد ظاہر کرنے میں کتنے مصالح ہیں۔ جنکی تمہیں خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کے وقوع سے قبل خیبر کی فتح عنایت فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک تقریباً دو سال کی مدت میں اتنی کثرت سے لوگ مشرف باسلام ہوئے کہ اس قدر کبھی نہ ہوئے تھے۔ حدیبیہ میں آپ کے ہمراہ ڈیڑھ ہزار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ لیکن دو سال بعد فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار

کا لشکر آپ ﷺ کے ہم رکاب تھا۔ و ما ذالك على الله بعزیز

(یاد رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر تقریباً 45 سال بعد وقوع پذیر ہوئی)

2۔ جنگ بدر کے موقع پر حضور ﷺ کا خواب:-

واذیریکہم اللہ فی منامک قلیلاً ولو اراکہم کثیر الفشلتم ولتنازعم

فی الامر سے والی اللہ ترجع الامور۔ (الانفال ۴۳-۸/۴۴)

ترجمہ۔ جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا اور اے مسلمانو! اگر تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملے میں جھگڑا ڈالتے۔ مگر اللہ نے بچا لیا بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔

اور لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے۔ اور اللہ کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے۔ (انتہی)

یہ جنگ بدر کے موقع کا خواب ہے اور یہ واقعہ سترہ رمضان کو پیش آیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد تقریباً 313 تھی اور مشرکین ہزار کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دی ان کے ستر کے قریب آدمی مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔

یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ حضور ﷺ کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی اور آپ ﷺ نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیان کیا اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی

ہمتیں بڑھیں اور اپنے ضعف اور کمزوری کا اندیشہ نہ رہا۔ دشمن پران کو جرات پیدا ہوئی۔
یاد رکھیں انبیاء علیہم السلام کا خواب حق ہوتا ہے خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے ہے
۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفار کا ضعف ظاہر کر دیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ کفار ہماری نگاہوں میں اتنے کم
لگے کہ میں نے اپنے برابر والے شخص سے کہا کیا تمہارے گمان میں کافر ستر ہونگے اس نے
کہا میرے خیال میں سو ہیں۔ حالانکہ کفار کی تعداد ہزار تھی دوسری طرف مشرکین کو
مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے کی حکمت یہ تھی۔ کہ مشرکین مقابلہ پر جم جائیں اور بھاگ
نہ پڑیں۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرمایا کفار کو شکست ہوئی۔ (وما ذالک
علی اللہ بعزیز)

روایے صادقہ احادیث رسول ﷺ کی روشنی میں

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا آثار نبوت سے صرف
مبشرات باقی رہ گئی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا مبشرات سے کیا مراد ہے آپ ﷺ
نے فرمایا اچھے خواب۔ (بخاری)

☆ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اچھا خواب نبوت
کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔ (متفق علیہ)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مومن کی خواب نبوت کا چھیا لیسواں
حصہ ہے اور جو نبوت سے ہو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ (متفق علیہ)

وحی کی ابتداء:۔ وحی کی ابتداء بھی سچے خوابوں سے ہوئی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جو حضور ﷺ وحی سے شروع
کئے گئے سچے خوابوں کا دیکھنا تھا۔ آپ ﷺ جو خواب بھی دیکھتے اسکی تعبیر صبح کی طرح نمودار ہوتی

آپ ﷺ کے خوابوں کا سلسلہ عمر مبارک کے چالیس سال ہو جانے سے شروع ہوا اور خوابوں کا سلسلہ چھ ماہ تک جاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ روایات صادقہ کونبوت کا چھیا لیسواں حصہ قرار دیا۔
 $23 \times 2 = 46$ سال

حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ جس وقت نماز پڑھ لیتے اپنے چہرے مبارک کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے آج رات جس نے کوئی خواب دیکھا ہے بیان کرے۔ راوی فرماتے ہیں اگر کسی کے خواب دیکھا ہوتا۔ اس کو بیان کرتا۔ پس آپ ﷺ (خواب کے بارے میں تعبیر) فرماتے جو اللہ چاہتا ایک دن آپ ﷺ نے ہم سے پوچھا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے۔ ہم نے کہا نہیں پھر آپ ﷺ نے فرمایا۔ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ (پھر ایک طویل خواب بیان فرمایا) (بخاری)

حیات طیبہ کے خواب: چند خوابوں کا ذکر کرتا ہوں تاہم کسی مقام پر مراد استیعاب نہیں

☆ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا ایک رات میں نے دیکھا اس چیز میں جو سونے والا دیکھتا ہے گویا ہم عقبہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں ابن طاب کی تر کھجوریں ہمارے پاس لائی گئیں میں نے اس کی تعبیر کی ہے۔ کہ دنیا میں ہمارے لئے بزرگی ہے اور آخرت میں نیک عاقبت ہے اور ہمارا دین سچا ہے۔ (مسلم)

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں سوال کیا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ اس نے آپ کی تصدیق کی تھی۔ لیکن آپ کے ظہور سے پیشتر وہ فوت ہو گیا آپ ﷺ نے فرمایا میں نے خواب میں اس کو دیکھا ہے کہ اس پر سفید کپڑے ہیں اگر وہ اہل نار سے ہوتا تو اس پر اور طرح کے کپڑے ہوتے۔ (احمد۔ ترمذی)

☆ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے

فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے ایسی جگہ پر ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں کھجوریں بہت ہیں۔ مجھے خیال گذرا کہ یہ یمامہ شہر ہے یا ہجر ہے ناگہاں وہ مدینہ تھا جسکا (قدیم) نام یثرب ہے میں نے اسی خواب میں دیکھا کہ میں نے تلوار کو حرکت دی ہے اور وہ اوپر سے ٹوٹ گئی ہے۔ ناگہاں وہ آزمائش (شہادت) تھی جو ایمان والوں کو احد کے دن پہنچی پھر میں نے اس کو دوبارہ حرکت دی۔

وہ پہلے سے بہتر ہو گئی پس ناگہاں اس سے مراد وہ فتح تھی۔ جو کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور ایمان والوں کا جمع ہونا تھا۔ (متفق علیہ)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا۔ زمین کے خزانے مجھے دئے گئے پس میرے ہاتھوں میں سونے کے دو کڑے ڈالے گئے۔ جو مجھ پر گراں گزرنے میری طرف وحی کی گئی۔ کہ ان کو پھونک مارو میں نے پھونک ماری وہ دونوں ختم ہو گئے۔ میں نے اس کی تعبیر کی کہ اس سے مراد دو جھوٹے شخص ہیں۔ جن کے درمیان میں ہوں۔ ایک صاحب صنعاء (مدعی نبوت عیسیٰ) اور دوسرا صاحب یمامہ۔ (مدعی نبوت مسلمانہ کذاب)۔ متفق علیہ

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں سو گیا تو اپنے آپ کو جنت میں پایا نسائی کے یہ الفاظ ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا۔ تو قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے جواب ملا یہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان ہے اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ ماں و باپ کی تابعداری ایسی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ (آپ ﷺ نے) تین بار دہرائے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بہت ہی تابعدار تھے۔ (شرح الصدور)

حضور ﷺ کا عالم برزخ سے کسی کے خواب میں آنا

اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے آپ ﷺ کو عالم دنیا کی طرح عالم برزخ میں بھی دیگر امتیازی مقامات کی طرح دو ایسے امتیازی مقامات سے نوازا ہے۔

جسکی وجہ سے آپ ﷺ کا کسی کے خواب میں آنا یا سیداری کے عالم میں کسی کو زیارت سے مشرف فرمانا ایک سچی حقیقت ہوگی اور ہے۔

امتیازی شان: 1۔ شیطان ملعون آپ ﷺ کی صورت میں متمثل ہو کر کسی کے خواب میں نہیں آسکتا۔

2۔ حضور ﷺ اپنے مزار اقدس میں حیات دنیوی حسی کے ساتھ زندہ ہیں۔

شیطان کی بے بسی: 1۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور

ﷺ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا۔ پس تحقیق اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا

کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل ہو کر (کسی کے خواب میں) نہیں آسکتا۔ (ترمذی)

2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے

مجھے خواب میں دیکھا تو وہ میں ہی ہوں کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا

۔ (ترمذی)

3۔ حضرت عون ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھا کیونکہ

شیطان کی یہ طاقت (ہی) نہیں۔ کہ وہ میری صورت بنا سکے۔ (ابن ماجہ)

4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا

جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ اور شیطان میری صورت نہیں بنا

سکتا۔ (بخاری)

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب: ☆ - حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ

عنه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صبح کی نماز کے بعد فرمایا کہ رات میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے آپ ﷺ نے فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شام کو تم روزہ ہمارے پاس افطار کرنا۔ اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ سے تھے چنانچہ اسی دن آپ شہید ہوئے۔ (شرح الصدور)

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری: حضور ﷺ کے وصال کے بعد

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے آپ ﷺ کے فراق میں مدینہ شریف میں رہنا دشوار ہو گیا تھا اس لئے آپ شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے تقریباً چھ ماہ کے بعد حضور ﷺ کی خواب میں زیارت ہوئی حضور ﷺ نے فرمایا۔ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا ہے کیا ہماری ملاقات کے لیے تیرا جی نہیں چاہتا۔ نیند سے بیدار ہوئے تیاری کی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے مدینہ منورہ پہنچے سب سے پہلے مسجد نبوی میں داخل ہوئے قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ غلام حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بیہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے۔ (ابن عساکر) .

تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق: علامہ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ

عنه نے باسنادہ حقیف سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لوگ تشہد میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ لازم پکڑو تشہد عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔

مزید تائید: ابن ہمام اور یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ یہ کہ امام اعظم رحمۃ اللہ

علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ حماد نے پکڑا حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ ابراہیم

نے پکڑا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑا اور حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میرا ہاتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ جناب رسول اللہ ﷺ نے پکڑا اور مجھے تشہد سکھایا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ سکھاتے تھے اور ہم سے مواخذہ کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے تشہد سکھایا اور فرمایا کہ لوگوں کو سکھاؤ۔ (کمانی المثنوی)

کلمہ لا الہ الا اللہ الی آخرہ کے ثواب کی خواب میں تصدیق

حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہے۔ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله

الحمد وهو علی کل شیء قدير۔ اس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوتا ہے اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور دس برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ اور دس درجے بلند کئے جاتے ہیں اور شام تک اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے شیطان سے اور جس نے ان کلموں کو شام کے وقت پڑھا اس کے لیے وہی ہوتا ہے۔ صبح تک ایک شخص نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایسے ایسے حدیث نقل کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ صدق ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا۔ (ابو داؤد۔ ابن ماجہ)

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خواب میں: حضرت سلمیٰ رضی اللہ تعالیٰ

عنہا سے روایت ہے کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر (ملاقات کرنے کے لیے) داخل ہوئی۔ وہ رہ رہی تھیں۔ میں نے عرض کیا آپ کیوں رہ رہی ہیں۔ فرمانے لگیں میں نے

حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے۔

کہ آپ کے سر اور داڑھی مبارک میں مٹی (غبار) پڑی ہوئی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ آپ کی یہ حالت کیسی ہے۔ فرمایا میں ابھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ میں حاضر ہوا تھا۔ (ترمذی)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خواب: حضرت امام بخاری رحمۃ

اللہ علیہ جمعہ شریف کے دن ماہ شوال ۱۹۲ھ میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ 16 سال کے عرصہ میں بخاری شریف کو تحریر کیا۔ ہر حدیث پاک کے لکھنے سے پہلے غسل کیا اور دو رکعت پڑھیں۔ اور پھر حدیث پاک کو تحریر فرمایا عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ میں نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا میں نے حضور ﷺ کو سلام عرض کیا۔ آپ ﷺ نے جواب دیا میں نے پوچھا۔ آپ یہاں کیوں تشریف فرما ہیں آپ ﷺ نے فرمایا۔ محمد بن اسماعیل (بخاری) رحمۃ اللہ علیہ کی انتظار کر رہا ہوں (نماز جنازہ میں شرکت کے لیے)۔

سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں: سلطان نور الدین

زنگی رحمۃ اللہ علیہ رات کو تہجد اور اوراد کے لیے اٹھا کرتے تھے ایک رات تہجد کے بعد سو گئے تو آنحضرت ﷺ خواب میں تشریف لائے اور آپ ﷺ نے دو بھورے رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میری مدد کرو اور ان دو شخصوں سے مجھے چھڑاؤ۔ نور الدین گھبرا کر اٹھا وضو کیا نماز پڑھی اور سو گیا۔ پھر خواب میں پہلا سا قصہ ہوا پھر اٹھا وضو کیا نماز پڑھ کر پھر سو گیا۔ پھر تیسری بار حضور ﷺ کو دیکھا وہی بات فرما رہے ہیں۔ پھر اٹھا اور کہا اب تو سونے کا وقت نہیں رہا نور الدین کا وزیر جمال الدین موصلی ایک مرد صالح تھا۔ اسے بلا بھیجا اور اسے تمام قصہ سنایا۔ جمال الدین موصلی نے نور الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اب آپ کس لئے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ابھی مدینہ جائیں اور کسی شخص سے خواب کا ذکر نہ کریں

۔ اسی وقت روانگی کی تیاری کر لی اور بیس آدمی اور وزیر کو اپنے ہمراہ لیا۔ اور نہایت تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے اور 16 دن کے اندر مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان نے شہر کے باہر ہی غسل کیا۔ پھر مدینہ شریف میں داخل ہوا اور روضہ اطہر کے پاس پہنچ کر نماز پڑھی پھر زیارت کر کے بیٹھ گئے۔ مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ کہ کیا کرے سلطان کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تھے وزیر نے انہیں کہا کہ سلطان نبی ﷺ کی زیارت کے لئے آئے ہیں اور خیرات کے لیے اپنے ساتھ بہت سامان لائے ہیں۔ لہذا تمام اہل مدینہ کے نام لکھ لو۔ سلطان انہیں ایک ایک کر کے بلاتا گیا اور خیرات دیتا گیا۔ اور ہر شخص کو غور سے دیکھتا آیا۔ اس کا حلیہ اس حلیہ کے مطابق ہے جو آنحضرت ﷺ نے ان دو شخصوں کا بیان کیا تھا لوگ آتے اور صدقہ لیکر چلے جاتے یہاں تک کہ سب ختم ہو گئے سلطان نے دریافت کیا کیا کوئی رہ تو نہیں گیا۔ جو صدقہ لینے نہ آیا ہو اس پر لوگوں نے کہا صرف دو مغربی شخص رہ گئے ہیں وہ کسی سے کچھ نہیں لیتے اور دونوں نیک اور مالدار آدمی ہیں غریب اور محتاج لوگوں پر صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں یہ سن کر اسے خوشی ہوئی اور کہا انہیں میرے پاس لاؤ۔ جب انہیں لایا گیا تو دیکھا وہ بعینہ وہی شخص ہیں جنکی طرف نبی ﷺ نے اشارہ کیا تھا سلطان نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے جواب دیا کہ بلاد مغرب کے رہنے والے ہیں حج کے لئے آئے تھے ہم نے چاہا کہ یہ سال آنحضرت ﷺ کے پاس گذریں سلطان نے کہا سچ سچ کہو مگر وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے اس پر سلطان نے دریافت کیا کہ یہ کہاں رہتے ہیں لوگوں نے بتلایا کہ حجرہ شریف کے قریب جو سرائے ہے وہاں رہتے ہیں سلطان ان کو لیکر ان کے گھر آیا اس نے وہاں بہت مال و دولت دیکھی۔ اہل مدینہ نے ان کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ دونوں صائم الدھر ہیں۔ روضہ اطہر پر ہر وقت درود پڑھتے رہتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی زیارت کرتے اور ہر روز اہل بقیع کی زیارت کو جاتے ہیں۔ اور ہر ہفتہ اہل قبا کی زیارت کرنے جاتے ہیں انہوں نے کبھی کسی سائل کو رد نہیں کیا

اور اس قحط سالی کے زمانہ میں انہوں نے بہت سے حاجتمندوں کی مدد کی ہے۔ یہ تمام باتیں سنکر سلطان نے کہا۔ سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا سلطان خود گھر کے اندر چکر لگانے لگا ہوتے ہوتے سلطان نے ایک چٹائی اٹھائی اور دیکھا کہ سرنگ کھدی ہوئی ہے جو حجرہ شریف کی طرف جاتی ہے۔ یہ دیکھکر لوگ کانپ اٹھے۔

سلطان نے کہا سچ بتاؤ انہیں جب خوب مارا گیا۔ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں اور عیسائیوں نے انہیں مغربی حاجیوں کے لباس میں بہت سا مال دیکر روانہ کیا ہے اور انہیں ایک بہت بڑی بات کا حکم دیا ہے۔ جو ان کے دماغ میں آئی تھی۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ کام کر لیں گے بات یہ تھی کہ وہ آنحضرت ﷺ کے جسم مبارک کو نکال کر لے جانا چاہتے تھے اس غرض سے وہ حجرہ شریف سے قریب ترین سرانے میں اترے اور انہوں نے وہ بات کی جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ لوگ رات کو سرنگ کھودتے ہر ایک کے پاس مغربی لوگوں کے طرز پر ایک چمڑے کا تھیلہ ہوتا جو مٹی کھودی جاتی اسے وہ ان تھیلوں میں ڈالکر جنت البقیع کی زیارت کے بہانے وہاں قبروں کے درمیان ڈال دیتے۔ ایک مدت تک وہ یہی کام کرتے رہے اور جب حجرہ شریف کے قریب پہنچے آسمان سے سخت کڑک اور بجلی چمکی اور سخت زلزلہ آیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائینگے اسی رات کو سلطان بھی مدینہ پہنچا۔ اور انہیں گرفتار کیا اور انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا سلطان نے شکر ادا کیا وہ ان دونوں شخصوں کا حال ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسکا اہل بنایا ہے خوب رویا۔ اور اس نے ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں قتل کیا گیا اس کے بعد اس نے پانی کی سطح تک خندق کھودائی۔ بہت سا سیسہ جمع کیا۔ اور سیسہ پگلا کر پانی کی سطح تک ایک دیوار حجرہ شریف کے گرد بنوادی۔ جب ان امور سے فارغ ہوا تو اپنے دار الحکومت چلا آیا۔ اور حکم دیا کسی کافر کو سرکاری کام پر نہ لگایا جائے۔ (وفاء الوفاء)

1۔ رہنمائے عمرہ و زیارت المکتبہ الامدادیہ مکہ مکرمہ صفحہ ۷۸ میں تحریر ہے۔

سلطان نے اس سرنگ میں جا کر دیکھا تو وہ سرنگ قد میں شریفین تک پہنچ گئی تھی۔ سلطان نے قد میں شریفین کو بوسہ دیا۔

علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب: علامہ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مدح نبی ﷺ میں بہت قصیدے لکھے جن میں سے بعض وزیرین الدین کی درخواست پر تصنیف ہوئے۔ لیکن اس کے بعد میں فالج کے عارضہ میں مبتلا ہو گیا۔ جس سے میرا آدھا نچلا حصہ بیکار ہو گیا۔ بہت علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر خیال آیا کہ مرنے سے پہلے ایک اور قصیدہ آنحضرت ﷺ کی مدح میں کہہ ڈالوں چنانچہ اسی حالت میں میں نے ایک قصیدہ تیار کیا اور رات کو بار بار اسے پڑھتا رہا۔ اور آنحضرت ﷺ کے توسل سے بارگاہ رب العزت میں رو کر دعا کی اسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی۔ اور خواب میں حضور ﷺ کی زیارت ہوئی آپ ﷺ نے پوچھا۔ بوصیری کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا؟ حضور آپ ﷺ دیکھ رہے ہیں آنحضرت ﷺ نے اپنا دست مبارک میری بدن کے مفلوج حصہ پر پھیرا اور اپنی چادر مبارک اڑھائی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں بالکل صحیح اور تندرست ہوں میں نے اس قصیدہ کا ذکر کسی شخص سے نہ کیا تھا۔ مگر ابھی صبح کو گھر سے نکلا ہی تھا۔ کہ ایک درویش ملے جنہوں نے مجھے کہا کہ جو قصیدہ تم نے آنحضرت ﷺ کی مدح میں کہا ہے وہ مجھے عنایت فرمائیے میں نے جواب دیا کہ حضور انور کی مدح میں نے بہت سے قصیدے کہے ہیں۔ آپ کی مراد کس قصیدے سے ہے؟ بولے کہ جو تم نے بیماری کی حالت میں کہا ہے اور جس کا مطلع یہ ہے۔

امن تذکر جیران بذی سلم

مزجت دمعاً جری من مقلۃ بدم

اور پھر کہا بخدارات کو یہی قصیدہ میں نے دربار نبوی میں سنا ہے جب یہ پڑھا جا رہا تھا تو حضور ﷺ اس کو سن کر یوں جھوم رہے تھے۔ جیسے باد نسیم کے جھونکوں سے میوہ اور درخت کی شاخیں جھوما کرتی ہیں۔ حضور ﷺ نے اس کو پسند فرمایا اور پڑھنے والے کو اپنی چادر مبارک اڑھائی۔ یہ سن کر میں نے اس درویش کو یہ قصیدہ دے دیا۔

عاشق زار ہو کوئی بھی بوسیری کی طرح

میرے آقا سے رحمت کی روا دیتے ہیں

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے بتلایا کہ وہ بیمار تھے تو انہوں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا آپ ﷺ نے فرمایا بیٹا کیا حال ہے۔ پھر آپ ﷺ نے (خواب میں ہی) اپنی ریش مبارک کے دو بال عطا فرمائے اور شفاء کی بشارت دی فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو دونوں بال ان کے پاس موجود تھے میرے والد صاحب نے ایک بال مجھے عطا فرمایا جو اب تک میرے پاس محفوظ ہے۔ (درمبین)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر بن ہوار کے خواب میں: حضرت

ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر بن ہوار رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دو خرقے عطا کئے۔ جب ابو بکر بن ہوار رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو دونوں خرقے ان کے پاس موجود تھے۔ ان میں سے ایک خرقہ علی بن ھیتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ علی بن ھیتی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ سے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ ان کی وفات ۶۴۷ھ میں ہوئی۔

حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے خواب میں: علامہ محمد

اشرف سیالوی صاحب نے اس واقعہ کو باحوالہ یوں نقل فرمایا ہے۔ عطاء خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مجھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے بیان کیا کہ جنگ یمامہ (جو کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی تھی) کا دن تھا میرے والد حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمہ کذاب کی طرف نکلے جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سالم مولیٰ ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

کہا ہم رسول اللہ ﷺ کی معیت میں اس طرح جنگ نہیں لڑا کرتے تھے پھر ہر ایک نے اپنے لئے ایک گڑھا کھود لیا اور اس میں کھڑے ہو کر دونوں نے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کیا حتیٰ کہ دونوں شہید ہو گئے اور اس دن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر ایک نفیس زرہ تھی مسلمانوں میں سے ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا تو اس نے زرہ کو اتار لیا۔

حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ایک مسلمان کو جبکہ وہ سویا ہوا تھا ملے اور فرمایا میں تجھے وصیت کرتا ہوں اور تو اس خیال سے دور رہنا اسے خواب و خیال سمجھ کر ضائع کر دے فرمایا۔ میں جب گزشتہ دن شہید ہو گیا تو میرے پاس سے ایک مسلمان گزرا تو اس نے زرہ کو اتار لیا زرہ اتارنے والے کی نشان دہی کرتے ہوئے فرمایا اسکا ٹھکانہ سب لوگوں کے ٹھکانوں کے آخر میں ہے اور اس کے خیمہ کے پاس ایک گھوڑا اپنی لمبی رسی کے ساتھ بندھا ہوا چر رہا ہے اس شخص نے زرہ کے اوپر ہنڈیا کو الٹا رکھا ہوا ہے اور ہنڈیا کے اوپر پالان رکھا ہوا ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیجئے کہ میری زرہ کے لئے آدمی بھیج کر اسے وصول فرمائیں نیز جب تو مدینہ شریف میں خلیفہ رسول اللہ ﷺ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو تو ان سے عرض کرنا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے۔ اسے بھی اتارا جائے اور میرے غلاموں میں سے فلاں فلاں غلام آزاد ہیں میری اس وصیت کو نافذ کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ وہ شخص حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے آدمی بھیج کر اس زرہ کو منگوا لیا اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پیش کی تو آپ نے ان کی وصیت کو نافذ فرما دیا حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد کی ہوئی وصیت کا نفاذ سوائے اس کے میرے علم میں نہیں ہے۔

اقول! حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس خواب پر اعتماد کرتے ہوئے زرہ اس شخص سے

واپس لینا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی وصیت کو نافذ فرمانا شہداء کرام کے علم و شعور اور ادراک و احساس اور آنے جانے والوں اور ان کے جملہ افعال کی معرفت پر اول دلیل اور روشن برہان ہے۔ الحمد للہ

نوٹ:- حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روایت مفصل طور پر تفسیر جمل اور خازن وغیرہ میں سورہ حجرات کی تفسیر میں زیر آیت ان الذین یغضون اصواتہم۔ درج کی گئی ہے دیکھئے جمل جلد چہارم صفحہ ۶۷ اور خازن جلد چہارم صفحہ ۱۹۶، صفحہ ۱۹۷ (جلاء الصدور)

مختلف چار خوابوں کا ذکر:- قارئین کرام! کتاب ہذا تحریر کرتے وقت مجھے ایک کتاب عالم برزخ کے نام سے پڑھنے کا موقع ملا یہ کتاب دارالعلوم دیوبند کے مہتمم قاری محمد طیب صاحب کی تحریر کردہ ہے یہ حوالہ جات اسی کتاب سے ہیں۔ عبارت قابل غور ہے جسمیں کافی مسائل کا حل ہے۔ قاری طیب صاحب کی تحریر کا سلسلہ یہاں سے لیکر صفحہ 242 تک ہے۔

اہل برزخ کی جانب سے بعض امور کی بذریعہ خواب تصدیق:- پھر یہی نہیں کہ خواب کے ذریعے برزخی افراد کے احوال مقامات ہی دنیا والوں کو معلوم ہو جاتے بلکہ دنیا والوں کے جو احوال و اقوال برزخ والوں کو پہنچتے ہیں اسی کی تصدیق بھی خوابوں کے ذریعہ ہو جاتی ہے کہ وہ احوال و اقوال ان تک پہنچ چکے ہیں۔

1- شیبیب بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مرتے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا جب تم مجھے دفن کر چکو تو میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہنا کہ اے ام شیبیب کہولا الہ الا اللہ۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق والدہ کی قبر جب برابر ہو گئی تو میں نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہ جملہ کہا کہ اے ام شیبیب کہولا الہ الا اللہ۔ جب میں قبرستان

سے لوٹا تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ ام شیبہ کہ رہی ہیں کہ بیٹا میں ہلاک ہو جانے کے قریب آچکی تھی۔ اگر تیرا لا الہ الا اللہ کہنا اس کی روک تھام نہ کرتا۔ بلاشبہ تو نے میری وصیت یاد رکھی اور عمل کر دکھایا۔

2۔ ابن ابی الدنیانے ذکر کیا ہے کہ ایوب ابن عینیہ کی بیوی تماضر بنت سہل کہتی ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ابن عینیہ (اپنے دیور) کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ایوب ابن عینیہ کو جزائے خیر دے کہ وہ بکثرت میری زیارت کو آتے رہتے ہیں اور آج بھی آئے تھے تو ایوب ابن عینیہ نے بیوی سے فرمایا کہ واقعی میں بکثرت بھائی کی قبر پر جاتا ہوں اور آج بھی وہیں تھا۔

3۔ حافظ ابن قیم صاحب نے ایک صالح شخص سے نقل کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا میں نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری جب آپ قبر میں رکھے گئے تو کہا کہ بھائی ایک آنے والا میری طرف آگ کا شعلہ لیکر بڑھا اگر فلاں صاحب نے میرے لیے دعا مغفرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔

بہر حال ان واقعات سے واضح ہے کہ دنیا والوں کی طرف سے برزخی لوگوں کے ساتھ جو نیک برتاؤ (دعا و ایصال ثواب کا) کیا جاتا ہے تو برزخ والے خواب ہی کے راستہ سے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں اور دنیا والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا ہدیہ برزخ والوں تک پہنچ گیا ہے جو یقیناً ایک یقینی علم ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا اپنا عمل تو خود کرنے والوں کو قطعی طور پر معلوم ہے اور یہ یہی ہے کہ انہوں نے وہ عمل اپنے فلاں میت ہی کے لیے کیا ہے اور وہی میت اس عمل کی خواب میں تصدیق کر دے کہ وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے تو اس واقعہ اور خواب کے سچے ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔

اہل برزخ کی اہل دنیا کو خواب میں ہدایات:- پھر یہی نہیں کہ برزخ والے

دنیا کے لوگوں کے کسی عمل کی اپنے تک پہنچنے کی تصدیق ہی کرتے ہیں بلکہ دنیا و برزخ کا رشتہ ایسا

قائم ہے کہ برزخ والے دنیا والوں کو واقعات کی نشاندہی کے ساتھ ان کے بارہ میں ہدایات بھی دیتے ہیں کہ تم ایسا کرو تا کہ ہمارا پیچھا بھی چھوٹ جائے اور تمہیں بھی یکسوئی اور تسلی ہو جائے۔

آئندہ واقعات کی خواب میں نشاندہی:۔ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت

سے ابن قیم صاحب نے نقل کیا ہے کہ صعّب ابن جثامہ اور عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں صحابی ہیں اور ان میں باہمی بھائی چارہ تھا ایک دن صعّب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی ہم میں سے جو پہلے انتقال کر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے کو دکھلائے۔ (تا کہ زندہ بھائی کو تسلی ہو جائے) عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ فرمایا ہاں ممکن ہے تو صعّب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اور عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا۔ گویا حسب وعدہ صعّب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کو دکھلایا۔

عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ صعّب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا صعّب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی! انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا صعّب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پر کیا گزری؟ فرمایا کہ میری مغفرت کر دی گئی۔ مگر کچھ تشویشات اور مشقتیں اٹھانے کے بعد۔

عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صعّب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں سیاہ سے چیز بطور داغ دیکھی جو گلے کو گھیرے ہوئے ہے میں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے؟ فرمایا دس دینار گنی ہیں جو میں نے فلاں یہودی سے قرض لئے تھے اور ادائیگی رہ گئی تھی وہی اس وقت گلے کا ہار بنے ہوئے ہیں۔

انہیں تم جا کر یہودی کو ادا کر دو۔ اور فرمایا کہ میرے بھائی میرے اہل و عیال میں جو بات بھی پیش آتی ہے اس کی خبر مجھے فوراً ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ میرے گھر میں ایک بلی ابھی چند دن ہوئے مر گئی تھی تو مجھے اس کی بھی خبر مل گئی۔ اور ہاں تمہیں بتا دوں کہ چھ دن کے اندر اندر

میری ایک چھوٹی بچی انتقال کرنے والی ہے۔ تمہیں اس کے بارہ میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ ان امور میں تو بڑی نشاہد ہی ہے اور ان علامتوں سے تو صحیح واقعات کھل جائیں گے۔

خواب سے بیدار ہو کر ان باتوں کو دل میں لیے ہوئے میں صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کی اہلیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے مرحبا کہہ کر میری شکایت شروع کر دی۔ کہ کیا بھائیوں کے گزر جانے پر ان کے اہل و عیال کو یوں ہی بھلا دیا جاتا ہے جیسے تم نے بھلا دیا کہ آج صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتقال کیے ہوئے کئی دن گزر گئے اور تم نے آ کر ہم پسماندگان کی خبر تک نہ لی۔

میں نے کچھ اعذار بیان کر دیئے جیسے اس قسم کے مواقع پر کر دیئے جاتے ہیں۔ میں یہ عذر بیان کر رہا تھا کہ میری نظر اس سینگ پر پڑی جسکا نشان صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیا تھا۔ میں نے اس سینگ کو کھونٹی سے اتار کر الٹا تو اس میں سے ایک تھیلی برآمد ہوئی جس میں دس دینار تھے۔ میں انہیں لیکر اس نام بردہ اور نشان دادہ یہودی کے پاس پہنچا۔ اور کہا کہ کیا صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمہارا کوئی قرض آتا ہے؟ یہودی نے دردناک لہجہ میں کہا کہ اللہ صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے وہ اصحاب رسول ﷺ میں سے تھے۔ بڑے پاک اور سچے تھے۔ میرا ان پر کچھ آتا بھی ہے تو میں لینا نہیں چاہتا بلکہ معاف کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ہرگز نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تیرا ان کے ذمہ کیا چاہیے تھا؟ تب اس نے کہا کہ دس درہم میں نے انہیں قرض دیئے تھے۔ میں نے اسی وقت وہ سینگ والے دس درہم اسکی طرف پھینکے کہ سنبھال لے۔ یہودی نے کہا خدا کی قسم یہ دس درہم بعینہ وہی ہیں جو میں نے انہیں دیئے تھے۔ (معلوم ہوتا ہے کہ استعمال میں ہی نہیں آئے) تو میں نے دل میں کہا کہ صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتلائی ایک بات تو پوری ہوئی اور حقیقت واقعہ نکلی۔

پھر میں صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سے پوچھا کہ صعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے

بعد کیا تمہارے گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا؟ انہیں کچھ یاد نہ تھا میں نے کہا دھیان دو اور یاد کرو کوئی بات پیش آئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات تو ہوئی کہ ابھی چار دن ہوئے ایک بلی مر گئی تھی۔ میں نے دل میں کہا کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بات کی بھی تصدیق ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ وہ ہماری بھتیجی (مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بچی) کہاں ہے؟ کہا کھیل رہی ہے وہ میرے پاس لائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اسے بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا ذرا اس کی خبر گیری رکھنا یہاں تک کہ ٹھیک چھٹے دن اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے دل میں کہا کہ یہ بات بھی پوری اتری۔

بہر حال اس سے واضح ہوا کہ برزخ والے خواب میں نہ صرف اپنے احوال و مقامات ہی بتلا دیتے ہیں بلکہ دنیا والوں کے احوال کی نشاندہی کر کے ان کی تصدیق کے ساتھ انکا اپنے تک پہنچنا بھی بیان کر دیتے ہیں اور نہ صرف بیان واقعات ہی کر دیتے ہیں بلکہ ان کے سلسلہ میں ہدایات بھی دے دیتے ہیں کہ ایسا کیا جائے اور یہ سب باتیں حقیقت سے واقع ثابت ہوتے ہیں۔ (عالم برزخ)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے مرو تو مجھ سے پہلے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا اور اگر میں تم سے پہلے مروں گا تو میں تمہیں خبر دوں گا۔ (کتاب الادب)

حضرت حذیفہ بن یشاق اور مفتی اعظم عراق کے خواب میں

صداقت قرآن کریم پر ناقابل انکار حقیقت ایک چشم دید ایمان افروز واقعہ۔ قصبہ سلمان پاک جو بغداد سے ۲۰ میل کے فاصلہ ہے زمانہ قدیم میں جسکا نام مدائن تھا جہاں اکثر صحابہ کرام گورنری کے عہدے پر فائز رہے۔ یہاں ایک شاندار مقبرے میں حضرت سلمان فارسی مشہور صحابی مدفون ہیں اور آپ کے گنبد مزار سے متصل نبی آخر الزمان کے دو صحابہ حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبد اللہ کے مزارات ہیں ان دونوں صحابہ رسول

۱۔ (از قلم قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند)

ﷺ کے مزارات پہلے سلمان پاک سے دو فرلانگ کے فاصلہ پر ایک غیر آباد جگہ پر تھے اور ہوایہ کہ حضرت خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ملک شاہ فیصل اول شاہ عراق سے فرمایا کہ ہم دونوں کو موجودہ مزاروں سے منتقل کر کے دریا دجلہ سے تھوڑے سے فاصلہ پر دفن کر دیا جائے۔ اس لئے کہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر کے مزار میں نمی شروع ہو گئی ہے یہ خواب مسلسل دو راتوں میں شاہ دیکھتا رہا شاید بے پرواہی یا انہماک امور سلطنت کے باعث بھول گیا تیسری شب حضرت موصوف نے عراق کے مفتی اعظم کو خواب میں یہی ہدایت فرمائی کہ ہم دو راتوں سے شاہ کو کہہ رہے ہیں لیکن اسنے اب تک اسکا کوئی انتظام نہیں کیا اب تمہارا کام ہے کہ اس کو متوجہ کر کے اسکا فوری بندوبست کراؤ چنانچہ اگلے روز صبح ہی مفتی اعظم نوری السعید پاشا وزیر اعظم کو ہمراہ لئے بادشاہ سے ملے اور اس سے اپنا خواب بیان کیا شاہ نے کہا میں بھی دو راتوں سے یہ خواب رکھ رہا ہوں۔ آخر کار کافی غور و مشورہ کے بعد شاہ نے مفتی اعظم سے کہا آپ مزارات کھولنے کا فتویٰ دے دیں اسکی تعمیل کے لئے تیار ہوں جب مفتی اعظم نے مزارات کھولنے اور نعشوں کو منتقل کرنے کا فتویٰ دے دیا تو یہ فتویٰ اور شاہی اعلان اخباروں میں شائع کر دیئے گئے کہ بروز عید قربان بعد نماز ظہران دونوں اصحاب رسول کے مزارات کھولے جائیں گے۔

اخبارات میں یہ اعلان شائع ہونا تھا کہ تمام دنیائے اسلام میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ رائٹر اور دوسری خبر رساں ایجنسیوں نے اس خبر کو تمام دنیا میں پہنچا دیا حسن اتفاق دیکھئے کہ ان دنوں موسم حج ہونے کے باعث تمام دنیا کے مسلمان حج کے لیے حرمین شریفین میں جمع تھے جب انہیں یہ معلوم ہوا تو انہوں نے شاہ عراق سے یہ خواہش ظاہر کی کہ مزارات حج کے چند روز بعد کھولے جائیں تاکہ وہ بھی شرکت کر سکیں اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریہ، افریقہ، روس اور ہندوستان وغیرہ کے ملکوں نے شاہ عراق کے نام بے شمار درخواستیں بھیجیں کہ ہم بھی جنازہ میں شریک ہونا

چند روز بعد کھولے جائیں تاکہ وہ بھی شرکت کر سکیں اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریہ، افریقہ، روس اور ہندوستان وغیرہ کے ملکوں نے شاہ عراق کے نام بے شمار درخواستیں بھیجیں کہ ہم بھی جنازہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند دن بڑھا دیا جائے چنانچہ دنیا کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان جاری کر دیا گیا کہ اب یہ رسم حج کے دس دن بعد ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی خواب میں ان مزارات کی عجلت کی تاکید کے پیش نظر احتیاطی تدابیر بھی کی گئیں کہ پانی مزارات کے قریب نہ آئے آخر کار وہ دن بھی آ گیا جسکی آرزو میں لوگ جوق در جوق سلمان پاک میں جمع ہو گئے۔ دو شنبہ کا دن تھا بارہ بجے دن کے بعد لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں پانی آچکا ہے اور حضرت جابر کے مزار میں نمی پیدا ہو چلی تھی۔ حالانکہ دریائے دجلہ وہاں سے دو فرلانگ دور تھا آخر کار انکی نعشوں کو نکالا گیا ان کی نعشوں کو کرین کے ذریعہ اٹھایا گیا اور خود بخود سٹریچر پر آ گئیں اب کرین سے سٹریچر کو علیحدہ کر کے ہر میجسٹی شاہ فیصل مفتی اعظم عراق اور وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور پرنس فاروق ولی عہد مصر نے کندھا دیا اور ایک شیٹے کے صندوق میں رکھ دیا دونوں نعشوں مبارک کے کفن حتی کہ ریش مبارک کے بال تک صحیح سلامت حالت تھے۔ نعشوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ یہ نعشیں تیرہ سو سال سے قبل کی ہیں۔ گمان یہ ہوتا تھا کہ شاید انہیں رحلت کئے ہوئے دو تین گھنٹے سے زائد وقت نہیں گزرا سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اتنی پراسرار چمک تھی کہ انہوں نے چاہا کہ آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھیں لیکن ان کی نظریں اس چمک کے سامنے ٹھہرتی نہیں تھیں بڑے بڑے ڈاکٹر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے ایک جرمن ماہر

۱۔ حالانکہ حضرت حذیفہ کا وصال ۳۶ھ اور حضرت جابر بن عبد اللہ کا وصال ۷۲ھ میں ہوا تھا مزارات کی منتقلی کا سفر جووم کی وجہ سے چار گھنٹے میں طے ہوا جب یہ جنازے نئے مزارات کے قریب حضرت سلمان فارسیؓ کے مزار کے پاس پہنچے۔ تو عراقی بحریہ، فضائیہ اور بری افواج نے گارڈ آف انر پیش کیا۔

چشم جو بین الاقوامی شہرت کا مالک تھا اس تمام کارروائی میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا اس نے جو یہ منظر دیکھا اتنا بے اختیار ہوا آگے بڑھ کر مفتی اعظم عراق کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کے مذہب اسلام اور بزرگی صحابہ کا اور کیا ثبوت ہونا چاہیے اور مفتی اعظم عراق کا ہاتھ پکڑتے ہی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس واقعہ کے بعد بغداد میں کھلبلی مچ گئی اور بے شمار یہودی اور نصرانی خاندان جوق در جوق مسجدوں میں قبول اسلام کے لئے آتے مسلمان ہو کر واپس جاتے رہے ان کی تعداد کا اندازہ لگانا آسان نہ تھا یہ کسی کتاب کا لکھا ہوا واقعہ نہیں ہے بلکہ اسلام کا چشم دیدہ معجزہ ہے یہ واقعہ ۱۹۳۲ء میں پیش آیا۔ (رسالہ تعلیم القرآن اگست ۱۹۶۳ء نوائے وقت ۱۹۷۸ء-۱-۲۵)

اسی طرح ۲۱ جنوری ۱۹۷۸ء کا روزنامہ نوائے وقت لاہور لکھتا ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں کی جانے والی کھدائی کے دوران حضور ﷺ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک جسکو دفن کئے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ بالکل صحیح و سالم حالت میں برآمد ہوا۔ علاوہ ازیں سات صحابہ کرام کے جسد مبارک بھی اصل حالت میں پائے گئے جنہیں دوبارہ جنت البقیع کے قبرستان میں عزت و احترام کے ساتھ دفن دیا گیا۔ جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جسم نہایت تروتازہ اور اصلی حالت میں تھے۔

امام مالک نے عبدالرحمن بن صعصعہ سے روایت کی ہے کہ اسے یہ اطلاع ملی ہے کہ عمرو بن الجحوم اور عبداللہ بن جبیر انصاری کی قبر سیلاب سے کھد گئی۔ ان کی قبر گذرگاہ کے ساتھ ہی تھی یہ دونوں غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور انہیں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا انہیں دوسری جگہ دفن کرنے کی غرض سے نکالا گیا۔ دیکھا کہ ان میں کسی قسم کا تغیر واقع نہ ہوا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کل ہی فوت ہوئے ہیں اور اس وقت واقعہ احد کو چھیا لیس سال گذر چکے تھے۔

علامہ بیہقی نے بیان کیا ہے کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر نظامہ جاری کرنے کا ارادہ

کیا تو اعلان کر دیا کہ جن لوگوں کے شہداء احد میں مدفون ہیں وہ حاضر ہوں لوگ نکل کر اپنے شہیدوں کے پاس آئے دیکھا تو ان کے جسم تروتازہ ہیں اور اعضاء جدھر چاہو مڑ سکتے ہیں ان میں سے ایک (حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے پاؤں کو کدال لگی جسکی وجہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اس میں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اس حالت میں پایا گیا کہ ان کا ہاتھ زخم پر رکھا تھا۔ جب ہاتھ کو اٹھایا گیا تو خون بہنے لگا ہاتھ کو اپنی جگہ لوٹا دیا گیا تو خون قہم گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو قبر میں دیکھا تو معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سو رہے ہیں اور ان کا کفن اسی طرح تھا جس طرح ان کو کفنایا گیا تھا۔ حالانکہ چھیا لیس سال گذر چکے تھے۔ (حیات جاوواں)

ان ایمان افروز واقعات کو تحریر کرنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کے صدقے کتاب ہذا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت
التواب الرحيم اللهم اغفر لنا قبل الموت و ارحمنا عند
الموت و لا تغدبنا بعد الموت و لا تحاسبنا يوم القيمة انك
على كل شىء قدير۔

دعاؤں کا طالب رضا محمد شاہ

بمقام خاص ترگ تحصیل عیسیٰ خیل میانوالی

حال واٹھی آرائیاں نوالی ڈاکخانہ ضلع میانوالی

